

زلف و نخی

مع



علامہ ارشد القادری



اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں

اول - دوم نخ زُلف و زنجیر (مکمل)

معہ
لالہ زار

رئیس القلم علامہ ارشد القادری

شبیر برادرز

40، اردو بازار، لاہور۔ فون: 7246006

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	-----	زُلف و زنجیر مع لالہ زار
مصنف	-----	علامہ ارشد القادری
تاریخ طباعت	-----	2001ء
تعداد	-----	1000
طبع	-----	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز، لاہور
قیمت	-----	100/- روپے

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۸	آب حیات	۶	تاج کارواں
۲۰۲	شوکت اقتدار	۲۲	دو شہزادے
۲۰۷	بارشِ نور	۳۲	دو یتیم
۲۱۰	نکھرا ہوا سونا	۴۹	جلوۂ زیبا
۲۱۸	اذانِ بلالی	۶۲	انعامِ شکست
۲۲۲	پیکروفا	۷۳	دل کی آشنائی
۲۲۷	شادی کی پہلی رات	۷۹	دل کا یقین
۲۳۲	شادی کی ترنگ سے میدانِ جنگ تک	۹۹	ایک دو شیرہ
۲۴۰	بے تاب آرزو	۱۱۲	سوداگر کی بیٹی
۲۴۵	محفلِ حرم	۱۳۰	امین جواڑی
۲۴۹	آرزوؤں کا انتخاب	۱۴۹	لحد کی منزل
۲۵۲	دیوانہ عشق	۱۵۵	نور کا ساگر
۲۵۷	کوچہ جاناں	۱۵۸	قذیلِ عرش کا نور
۲۶۹	زبیدہ خاتون	۱۶۸	تسلیم و رضا
۲۸۰	بلخ کی شہزادی	۱۷۳	پہلی ملاقات
۲۹۵	پاک دامن نوجوان	۱۸۳	ایک وجود دو حیرتوں کا مجموعہ
۳۰۶	چودھویں رات کی دو شیرہ	۱۸۹	جلوؤں کی وادی
۳۲۹	لمحہ آتشیں	۱۹۲	عشق و اخلاص
۳۳۶		۱۹۵	عشق و ایمان کا کردار

غرضِ تصنیف

زیر نظر کتاب کے اکثر مضامین ”جامِ نور“ کلکتہ سے لئے گئے ہیں۔ موصول شدہ اطلاعات کے مطابق اہل حرم کی ان درد انگیز کہانیوں نے لاکھوں دلوں کی بجھتی ہوئی خاکستر کو شرارے کی طرح گرمادیا۔

بعض رقیق القلب حضرات تو جذبات کے تلاطم میں اس درجہ بے خود ہو گئے کہ گریہ پیہم سے ایک نشست میں وہ پورا صفحہ نہیں پڑھ سکے اور دفور غم سے بہت دنوں تک ان کی بھیگی ہوئی پلکوں کی نمی جذب نہ ہو سکی۔

بلا خوفِ تردید اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ عشقِ رسالت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تپش سے جو سینہ محروم ہے میں اسے مومن کا سینہ نہیں سمجھتا۔ اہل حرم کے ساتھ دلوں کا رشتہ ایمان کے شگفتہ ہونے کی واضح ترین علامت ہے۔

ان تاریخی کہانیوں کی ترتیب و اشاعت سے میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کا ذہن حیا سوز گندے اور شہوت انگیز افسانوں سے ہٹا کر اسے پاکیزہ خیالات اور صحت مند رجحانات کا مرکز بنایا جائے اور غیر شعوری طور پر ان کے دلوں کو ایمان کی ان لطیف لذتوں سے آشنا کیا جائے جن کی معنوی کشش کے بل پر آسانی کے ساتھ بھیگی ہوئی زندگیوں کا رخ موڑا جاسکتا ہے۔

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان فطری طور پر قصص و حکایات سے دلچسپی رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس فطری خواہش سے جنگ کرنے کی بجائے اُسے صحیح رخ پر لگا دینا وقت کا مفید ترین اقدام ہے۔ تجربہ شائد ہے کہ ایک ہی بات جو براہِ راست درس و پیغام کے انداز میں کہی گئی عام طبیعتیں اس سے مانوس نہیں ہو سکیں لیکن وہی بات جب کہانی کے سانچے میں ڈھل گئی تو حلق کے نیچے اترنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔

ان کہانیوں کو پڑھتے وقت جگہ جگہ آپ محسوس کریں گے کہ دین کے حقائق کو ”گفتہ آید در حدیث دیگران“ کے طور پر آسانی سے دماغ میں اتار دیا گیا ہے۔
مجھے توقع ہے کہ ملت کا حساس طبقہ نوجوانوں میں عشق کا سوز و گداز اور دینی ولولوں کی حرارت پیدا کرنے کے لئے میری اس کاوش کا خیر مقدم کرے گا اور اسے عوام تک پہنچانے میں میرا مددگار و معین ثابت ہوگا۔

یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں
موسم کا منہ نہ تھکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا !

ارشاد القادری

ایڈیٹر جام نور

کلکتہ: فیض العلوم: جمشید پور

تاراج کارواں

کربلا کی دوپہر کے بعد کی رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور درد ناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔

صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ اعوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانو پہ سر رکھا اور جاں نثار نے دم توڑ دیا۔

نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی۔ بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔

تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے۔ نفس نفس میں الم و اندوہ کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔

دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں۔ جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے۔ جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے اور جن کے بھائیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔

روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے۔ تن نیم جاں میں اب تڑپنے کی سکت باقی

نہیں رہ گئی ہے۔ محورت ذات کے دل کا آگینہ یونہی نازک ہوتا ہے ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا آہ! اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔

سب کے سب جامِ شہادت نوش کر چکے۔ اب تنہا ایک ابنِ حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہیں۔ آہ! اب وہ بھی رختِ سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کہرام برپا ہے۔ کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانو کو تلقین فرما رہے ہیں۔ کبھی لختِ جگر عابدِ بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں اور کبھی کسمن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے فرض کا تصادم ہے۔ خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے ایمانِ مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔

کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا۔ پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔

دوسری طرف شوقِ شہادت دامن گیر ہے۔ ملت کی تطہیر اور حمایتِ حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔

بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ، حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمہ سے باہر نکلے اور لشکرِ اعدا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔

اب ذرہ سا ٹھہر جائیے!!! اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بننے لگتا ہے۔ تین دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا بائیس ہزار تلواروں کے زرخے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔

دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں لمحہ لمحہ منٹ پر درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔

ہائے رے تسلیم و رضا کی وادی بے ایام۔ پھولوں کی پکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا

ہے آج انہیں کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔
دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو اپنے مرکز امید کو اپنے پیارے حسین کو حسرت
بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے تلواریں بے نیام
ہوئیں۔ فضا میں نیزوں کی انی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا چاند
گہن میں آ گیا۔

زخموں سے چور خون میں شرابوز سیدہ کا راج دلاراجیسے ہی فرش پر گرا کائنات کا سینہ
دہل گیا۔ کعبے کی دیواریں ہل گئیں چشم فلک نے خون برسایا۔ خورشید نے شرم سے منہ
ڈھانپ لیا اور گیمتی کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔

ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلو میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم
بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔

ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا۔
تیموں بیواؤں اور سوغواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا امیدوں کی دنیا
لٹ گئی۔ آہ!۔ بچ منجھدار میں کشتی کا نا خدا بھی چل بسا۔

اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں؟ کس کا منہ نکلیں؟ کاشانہ نبوت کی وہ شہزادیاں جن
کی عفت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں
کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا
محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں۔

ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر
والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو
نہیں تھمتے۔ اضطراب کی آگ نہیں بجھتی اور نالہ و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے
میدان میں حرم کی ان سوغوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں شوہروں اور
عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ
میں نہیں خون خوار دشمنوں اور سفاک درندوں کے زرخے میں تھیں۔

امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لئے۔ جسم

اطہر پر نیزے کے بتیس زخم اور تلوار کے چونتیس گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے دس نابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی نعش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب اور شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بد بخت شمر نے اندر گھس کر پردگیان حرم کی چادریں چھین لیں، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا:

”شمر! تیری آنکھیں پھوٹ جائیں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے۔ اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے۔ لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم! ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نوایاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑھائی تھی۔

حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعف و نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی آخری نشانی ہے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تا کہ حسین (رضی اللہ عنہ) کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔

سنام ہو چکی تھی۔ یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجاس گرم رہی۔

ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا۔ ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشہ بے گور و کفن پڑا تھا۔ مخینے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر درد ناک حسرت برس رہی تھی رات کی بھیا تک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہر بانو سے کالے نہیں کٹ

رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لئے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔

پردیس، پھیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے میت کا گھر، بالیس کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا زغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ! کلیجہ شق کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔

بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اُجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا اس کی نگلی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اُس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔

واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ، بتول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ پیچھے ۷۲ شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء لئے ہوئے تھے۔

خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن نعش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بقیاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو انھیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھیں۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔

فاطمہ (رضی اللہ عنہ) کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جانکاه کی بے خودی میں انھوں نے مدینے کی طرف رُخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا۔

”یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھئے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے۔ خاک و خون میں آلودہ ہے۔ تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ نعش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان! آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ پردیس میں کوئی ان کا یار و شناسا نہیں۔ نانا جان! اپنے قیموں کی فریاد کو پہنچئے۔“

ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔

اسیرانِ حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیرانِ اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لئے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لئے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھیں کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا خدا کا شکر ہے۔ نبی کا چمن تاراج ہو گیا۔ ان کی اولاد قید کر لی گئی۔ رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں۔ ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے۔ اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔

اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خون کے قاتلوں سے جو روستم کا شکوہ ہی کیا ہے پھوپھی جان!

”بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔“

ابن سعد نے کہا۔ گود میں نہیں تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں اگر راضی ہو تو اقرار کر۔

ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تمللا اٹھے، اضطراب میں بھی

ہوئی ایک آواز کان میں آئی۔

بد بخت! نو جوانانِ جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کٹا ہوا سراب بھی دو جہان کا مالک ہے۔ ذرا غور سے دیکھ! بوسہ گاہِ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے؟ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندوہ میں اسیرانِ اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہمت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات و دعا میں مشغول تھیں ایک ہلکی آواز کان میں آئی۔

”بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟“

نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستہ عرض کیا:

میں ایک غریب و محتاج عورت ہوں۔ بھوکے پیاسے آل رسول کے لئے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں۔ ایک مدت تک شہزادیؑ رسول سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کی کینری کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اُس زمانے کی بات ہے جبکہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔

حضرت زینب نے اُبلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا۔ تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی۔ ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔

بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنتِ رسول کے قدموں پر ثار کر دی۔

عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہوا۔

رے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفہ کی آبادی میں داخل ہوا بازار میں دونوں طرف سنگدل تماشاویوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندانِ نبوت کی بیبیاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں۔ سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ و فور غم سے آنکھیں اشکبار تھیں۔ دل رو رہے تھے اس احساس سے ذخموں کی

نہیں اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی اب محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ناموس کو گلی گلی پھیرایا جا رہا ہے۔

کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔

ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اُتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے سر زخمی ہو گیا۔ خون کا فوارہ چھوٹنے لگا یہ دیکھ کر حضرت زینب بیتاب ہو گئیں۔ دل بھر آیا۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں۔

”آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا کونے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔“

ابن زیاد کا دربار نہایت تزک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک طشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لبہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعویدار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ! حق سر بلند ہوا! باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔

صحابی و رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس وقت دربار میں موجود تھے ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے۔

”ظالم! یہ کیا کرتا ہے؟ چھڑی ہٹالے! نسبت رسول کا احترام کر میں نے بارہا سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔“

”ابن زیاد نے غصہ سے چیخ و تاب کھاتے ہوئے کہا۔“ تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔“

حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہہ تیغ کرایا ہے اور اب ان کی عفت ماب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔

ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا گیا۔ لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپیٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھیں ان کی کنیروں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیر نے جواب دیا:

”زینب بنت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)۔“

ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں بے اختیار رو پڑیں ”واللہ! تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا میرے خاندان کا نشان مٹایا میری شاخیں کاٹ دیں۔ میری جڑا کھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔“

اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں ”میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔“

ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ (ابن جریر و کامل)

اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا۔

اُس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔

اس اجتماع میں مشہور محبت اہل بیت حضرت ابن عقیف بھی موجود تھے ان سے خطبے کے یہ الفاظ من کر رہا نہ گیا۔ فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو لٹکارتے ہوئے کہا۔

خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے۔ حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔!

ابن زیاد اس جواب سے تھلا اٹھا اور جلاو کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڑھے کا سر قلم کر دو۔

ابن عقیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔
کوڑ کے ساحل پر جاں نثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔

دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا۔ پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا۔ کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔

اٹائے سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا رات کے سنانے میں ماتم و فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھیں کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹی ہوئی محسوس ہوتی۔

جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کہرام مچا ہوا جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لئے ہر قاتل اپنی جگہ بیقرار تھا۔

سب سے پہلے زحر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔

حسین ابن علی اپنے اٹھارہ اہل بیت اور ساٹھ اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشے بے ہنہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہیں۔ ان کے رخسار گرد و غبار سے

میلے ہو رہے ہیں۔ ان کے جسم و جھپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے توفیق کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا لیکن اس زلزلہ خیز اور بلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا بار بار چھاتی بیٹتا تھا کہ ہائے! اس واقعہ نے ہمیشہ کے لئے مجھے ننگ اسلام بنادیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لئے نفرت و دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ انھیں نفسیاتی طور پر صورت حال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے علی! تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا۔ میری حکومت چھیننا چاہی اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟

بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔

یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدائینوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔

یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں اور انھوں نے گلوگیر آواز میں کہا:

”تو اپنی حکومت میں رسول زاد یوں کو گلی گلی پھرا چکا اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا۔ ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپالیں۔“

بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لئے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔

امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بد بخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا: ظالم! یہ بوسہ گاہ رسول ہے اس کا احترام کر۔“

یزید یہ سن کر تھلا گیا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔

حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھیں۔ کبھی حضرت شہر بانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیٹے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتیں ایک رات کا ذکر ہے نصف شب گزر چکی تھی۔ سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا۔ محل کی دیواریں ہل گئیں۔ دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لئے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درود کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔

اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کے درود یوار سے نکلوا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی۔ کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل ہلا دیئے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔

اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں مع تمیں سواروں کے اہل بیت کا بیہ تاراج کارواں اُس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلگداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔

حضرت نعمان ابن بشیر بہت رفیق القلب پاکباز اور محبت اہل بیت تھے دمشق کی آبادی سے جو نئی قافلہ باہر نکلا حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستہ بستہ عرض کیا۔ یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے جہاں جی چاہے تشریف لے جائے۔ میری

تکلیف کا خیال نہ کیجئے۔ جہاں حکم دیجئے گا پڑاؤ کروں گا۔ جب فرمائیے گا کوچ کروں گا۔
 کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور
 شہدائے اہل بیت کو دفن کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو
 جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کناں آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا آخر الذکر
 روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔

حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب دشر بانو
 اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی
 طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے۔ یہاں تک کہ کئی دنوں
 کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی
 شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے
 کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے
 ظل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں
 تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا۔ پلکوں پہ ننھا سا
 قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان اُمنڈنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چومک گئے اور
 آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی
 برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھالیں تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔
 خیمہ اُجڑا پڑا ہے۔ قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفہ حال
 یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔
 لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و
 بلا ہیں۔

مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر
 کانپ رہا ہے۔ زمین کی چھاتی دہل رہی ہے۔ قیامت کو پسینہ آ رہا ہے۔ کہ کربلا کے فریادی
 مالک کو نمین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے اُن کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔
 استغاثے کے ثبوت کے لئے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا
 جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لئے کس کے ہوش

سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بےقراری میں کئی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے۔ صبح سویرے ہی کوچ کے لئے تیار ہو گئے۔

نعمان بن بشر آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں تمیں محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔

دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا۔ سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

جونہی مدینے کی آبادی چکی صبر و کھلیب کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار اُٹتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے درد ناک نالوں سے زمین کا پنے لگی۔ پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔

ایک ساڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کھرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ دُور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آ منا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہ و فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے۔ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئیں۔

نانا جان! اُٹھئے! اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دھائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا نانا جان!

نانا جان! یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے۔ آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرقد سے نکل کر اپنی آشفتمند نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھئے حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ ”قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی۔ جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تلواریں تیروں اور نیزوں سے، ان کے جسم گھائل ہیں۔ ان کی لاشیں بے آب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔“

حضرت صفری پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھیں۔ بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھیں: ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی وہ واپس لوٹیں گے۔ جس طرح ہوا انھیں منا کے لائے۔

اپنے امام کا کٹا ہوا سر لئے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رُک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی۔ بہتے ہوئے دھارے قلم گئے آسمانوں میں الجھل مچ گئی۔ پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آجائے۔

اس وقت کا دلگداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یاد نہیں کہ دردِ عالم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں نرپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ پروردہ ناز کا سر مرقد انور کے باہر تھا۔ رحمت کی جلوہ گاہ خاص میں جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو زگس کی چشم محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ تھا۔ برزخ کی دیوار تو غیروں پہ حائل ہوتی ہے۔ اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا حجاب! حضرت زینبؓ حضرت شہر بانوؓ حضرت امام ربابؓ عابد بیمار اور اُمّ کلثومؓ و سیکینہؓ یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے؟ لشکبار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیتِ الہی کا سر بستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا؟ پس

دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم؟
مرقد رسول سے سیدہ کی خواب گاہ بھی دوہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے۔
لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے قیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لئے ماما
کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آگئی ہوں۔
تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر بلا کی داستان زلزلہ خیز
سنائی۔ شہر بانو نے کہا۔ خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ عابد
بیمار نے عرض کیا:

”قیمی کا داغ لئے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط
کی بھیک مانگتا ہے۔“

آہ و فغاں کا اُبلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام عالی مقام کا سر
مبارک مادرِ مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
دریا کا پتھر ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا۔ پھر اُٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں
لے لیا۔

دو شہزادے

افسردہ چہرے بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔

گردشِ ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اظہارِ مدعا کے لئے زبان نہیں کھل رہی تھی۔
”بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کئے۔

کربلا کے مقتل سے خاندانِ رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے دردر کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تین دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔

جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موجزن ہے ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے ہمیں کچھ سہارا دے دو۔

آج تمہارے لئے سوائے پر خلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غم گسار ہمدردیوں کا پوار پوار صلہ دلوائیں گے۔
رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا۔ لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سیدزادے ہو۔ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آلِ رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔

تم کوئی دوسرا گھر دیکھو! یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔“

رئیس کے جواب سے قیہوں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پر خم ہو گئیں، یونہی غریب الوطنی
قیہی، بے کسی کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں غڈ حال کر دیا تھا اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا
نرم و نازک آئینہ بھی ٹوٹ گیا۔

یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی
کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا:

”پیارے مت روؤ! گھائل ہو کر مسکراتا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی

ریت ہے۔“

دھوپ کا موسم تھا۔ قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدی سے لیکر چرند پرند تک سبھی اپنی
اپنی پناہ گاہوں میں جا چپے تھے۔ لیکن چمنستانِ فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے
آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لئے کہیں آسائش کی جگہ نہیں تھی۔
دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔

یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رُخ سے شانِ ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر
دم لینے کے بعد چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا۔

بھائی جان! جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں معلوم نہیں۔ یہ کس کا گھر
ہے۔ اس نے کہیں آ کے اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی
تپش سے تلوؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا
جاتا ہے۔ یہاں سے کیسے اٹھیں گے۔“

بڑے بھائی نے جواب دیا۔ ”ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ صرف
سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے! ہو سکتا ہے اسے ہماری
حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے اور اگر اٹھا بھی دیا تو
دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے۔ انکاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر
مت کرو میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لا دوں گا۔“

تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک
سوال پوچھا۔ بھائی جان آپ کو یاد ہوگا۔ اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول
گئے تھے۔ ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی

تھی۔ ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کھوہ میں پناہ لی تھی۔ شام تک طوفان نہیں تھا، رات ہو گئی اور ہم لوگوں کو اُسی کھوہ میں ساری رات بسر کرنا پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا۔

بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا؟ یاد کرو بس وہ وہی تھے۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں وہ ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔

ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کے اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے اس لئے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی ورہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کی یہ ساری بخشیں نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔

چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور ”گھر کا بھیدی“ گھر کا راز واشکاف کر رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ غصے میں شرابور تھا لیکن جونہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی اس کا سارا غصہ کا فور ہو گیا۔

نہایت نرمی سے دریافت کیا۔

”تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بعینہ یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور

جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔

سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ”ہم لوگ آل

رسول ہیں۔ یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی ہیں دن کے فاتے سے نیم جان ہیں۔ تکلیف

کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں وہ سامنے والے رئیس

کے گھر پر گئے تھے۔ اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا دھوپ بہت تیز ہے۔ زمین

تپ گئی ہے ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے یہاں سے اٹھ جائیں گے۔“

مجوسی نے کہا ”سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو۔ اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا؟“

بڑے بھائی نے جواب دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اُس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو۔ جب کہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔

قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اُس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری پشانوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہئے تھا اُسے!

اور یہ بھی کسی کور چشم کو نہ نظر آئے تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لئے ”اپنے رسول“ کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے نسبت نہ بھی واقعہ کے مطابق ہو جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔

بہر حال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں لیکن ان کی پاکیزہ اور با عظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نو نہالوں کے لئے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔

ویسے ایک با عظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا جب بھی تمہاری قیمتی غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو ہچکچاتا دینے کے لئے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا۔

دیکھو! نازوں کے پلے ہوئے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ

ہمیشہ سے دردمندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی۔ گھر اندھیرا تھا۔ ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ بالآخر اضطرابِ شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے۔

جس خواجہ کار ساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک ”لخت جگر“ کی بشارت ملی تھی! معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔

لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم! کہ لالہ کا جگر جن کے کف پاکی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے۔ آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہیں اور جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیند سوتا ہے آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔

بیگم! ان کے بزرگوں کا احسان تمہیں یاد نہ ہو جب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کی ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی دلجوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دل کش نمونہ ہے۔“

مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اُس کی مامتا جاگ اٹھی۔ جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھالیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا نہلایا، کپڑے بدلوائے بالوں پہ تیل رکھا۔ آنکھوں میں سرمہ لگایا اور بنا سنوار کر شوہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شہزادوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے یہ رقت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لئے قیمتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔

ذرا دیکھئے! یہ کالی گھٹاؤں کی طرح کا کل، یہ چاند کی طرح درخشاں پیشانی یہ نور کی موجوں میں نکھرا ہوا چہرہ یہ پروئے ہوئے موتیوں کی طرح دانتوں کی قطار یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ۔ یہ گل ریز تبسم، یہ گہر بار تکلم، یہ رحمتوں کا سوریا یہ سرگمیں آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال، سچ بتائیے کیا یتیموں کی یہی سچ دج ہوتی ہے؟ خبردار آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔

ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی سے گھر میں تھا۔ دو چراغ اور آگئے۔ جس گھر میں تین چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں ہے وہ ستاروں کی انجمن ہے۔“

پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ کر کھائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سارا غم بھول گئے۔ اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غمگسار شفیعوں کے لئے دعا کی زبان بن چکا تھا۔

آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا۔ وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پٹینے لگا۔ گھر میں ایک کھرام بچ گیا سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔

رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی گھبراہٹ میں پوچھا۔

”کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں جلد بتائیے؟“

کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔

”ارے میں لٹ گیا۔ تباہ ہو گیا۔ میری مٹی برباد ہو گئی۔ کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے۔

قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہے۔ ہائے میں لٹ گیا.....! ہائے میں لٹ گیا.....!

یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اُسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ جلد بتائیے کیا قصہ ہے۔ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔

رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا۔

ہائے! میں لٹ گیا۔ اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے۔!

آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سیدزادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس! اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔

ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعہ کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیاںک اور ہولناک

خواب دیکھا ہے.....

کہ میں نے ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب۔ تے گزرا میں نے لپک کر دریافت کیا۔ آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟

ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعہ امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔

یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔

میں بھی آگے بڑھا اور جونہی دروازے کے قریب پہنچا جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔

اس نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو۔ اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لئے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیونکر مل سکتی ہے۔

اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تمہی نے کیا ہے۔

جاؤ محشر کی تہتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے۔ انگاروں پر لوٹ رہا ہوں، میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔

ہائے! میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتا تھا۔ اسی کوٹ نے آزرہ کر لیا ہے۔ اب کون میری چارہ سازی کرے گا۔ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

آپ اپنی جان مت ہلکان کیجئے۔ خدا بڑا غفور الرحیم ہے اس کے دربار میں روئے ٹرپئے، ذرا کیجئے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ خدا کی رحمتوں سے ناامید ہونا مسلمانوں کا نہیں کافروں کا شیوہ ہے۔

رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ”تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات

کرو! خدا کا حبیب جب تک آزرده ہے ہم لاکھ فریاد کریں رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔

خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تہیور دیکھتی ہے۔ محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکا ہے۔ صدحیف! جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ آج اسی کے گھر کا آگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہے۔ جب بھی مشیت الہی بہر حال اس کی طرف دار ہے۔ وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔

بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا ”تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے۔ صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہومنت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جاسکے گی۔“

بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سہارا نظر آیا تھا۔

آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشہ گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے دو شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔

مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے باہر نکلا مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔

دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے دونوں نہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم ان ہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔

یہ خبر سننے ہی رئیس کی باغچیں کھل گئیں۔ اُس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لئے ساری عمر پڑی ہے۔

نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دولھے کی طرح بن سنور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔

رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا۔

”مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے۔ ایک لمحے کے لئے توجہ فرمائیں۔

مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟

رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا۔

یہ دس ہزار اشرفیوں کا توڑا ہے اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

”فردوس کی جو عالی شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں دس ہزار اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت یزدانی کا جو دروازہ کھلا ہے اپنے اوپر مقفل کر لوں۔

شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس خوابہ کونین کو آزرده کر کے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے رات کو ان کے جلوہ بار تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اے خوش نصیب! کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی شب دبجور نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کا سوریا ہو چکا ہے۔

یاد کیجئے! خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے کہ ”آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں“ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا۔

مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی!

ہمارے حال پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجئے۔ حضرت سیدہ کی کینز شکرانے کی نماز ادا کر رہی

ہے۔ غالباً وہ ابھی سجدے میں ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی دکتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا۔ وہاں اب تک چراغ جل رہا ہے۔ کرن پھوٹ رہی ہے۔ اور درود یوار سے نور برس رہا ہے۔

جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے دلوں کی انجمن روشن ہوئی جیتے جی سردی امان کا پروانہ ملا اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ انہیں دس ہزار اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ صبح سے اب تک میں دس ہزار اشرفیاں صرف ان کے اوپر سے ٹار کر چکا ہوں۔

اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں گھر کے مالک ہیں۔ ہم خود ان کے حوالے ہیں انہیں کیا حوالہ کر سکتے ہیں۔

بھائی جان! آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ البتہ ماتم کا وقت باقی ہے وہ کبھی نہیں گزرے گا۔

رئیس سر جھکائے ہوئے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔

بڑے بھائی کی نظر جونہی اس کی طرف اٹھی دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بڑے سے بڑے غم کا بار سہ لیا ہے۔ لیکن بھئی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے کبھی نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوہ تھا لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتنیں گے۔ جاؤ تمہیں ہم نے معاف کر دیا۔ نانا جان بھی معاف کر دیں گے۔ مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ۔ جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے گھر لوٹتے وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔

دوہیتیم

آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لئے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔

تلواروں کی دھماکہ برچھیوں کی انی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شاہراہ عام پر لٹکا دی گئی تھی۔ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی ہائے رے نیرنگی عالم! زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی آج اس کی تربت کے لئے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔

جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا زرخ اونچا کر دیا تھا۔ آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا۔ فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیاں تک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ دعا قیامت تک کے لئے ضرب المثل بن گئی۔

شقاوتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جو رستم کی دادی میں بد بختیوں کا گھنا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔

اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا۔ مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے۔ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں یتیم بچے جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر چھ سال کی تھی کوٹنے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزیں تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔

کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوٹنے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی۔

”نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے انہیں کس طرح ان کے ساتھ لگا دو۔“

زاوِ راہ کھل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لئے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جونہی ان پر نظر پڑی فرطِ غم سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ پیشانی چوٹی سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔

باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہیں۔

قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا۔

”ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔“

تیز نشتر کی طرح دل میں آ رہا ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں بچوں

کو جواب دیا۔

”گلشن رسول کے مہکتے غنچو! کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ زبان میں تاب گویائی نہیں ہے کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اُجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دھاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔

ہائے! تم پردیس میں یتیم ہو گئے۔ تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں۔ نگلی تلواریں لئے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔

یہ خبر سن کر دونوں بچے بیت و خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا۔ پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی۔ منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے ہائے رے تقدیر کا تماشا! ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی مامتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لئے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر چل جائیں نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپالیں۔ کبھی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں۔ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے۔

آہ! غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔

پردیس میں ننھی جانوں کے لئے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ قضا تیج برہنہ لئے سر پہ کھڑی تھی۔ آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا قاضی شریع سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

بنو ہاشم کے نونہالو! اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو۔ دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں۔ تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو۔ تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک آہگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصہ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لئے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔

اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کونے سے باہر نکل

جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ ”اچھا جاؤ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔“

بھگی پلکوں کے سائے میں قاضی شریح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شریح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انھیں کوفہ کی شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی۔ اُنکی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے او جھل ہو گئے۔

رات کا وقت دہشت خیز سناٹا، بھیا تک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوشِ مادر کی تازہ پھڑکی ہوئی دامنھی جانیں نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر، تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردشِ ایام! کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی تیج پر تھا آج ان ہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لئے بغیر نہیں جاسکتے تھے۔ آج وہ یکہ دہشت غربت میں بھٹکے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی۔ چلتے چلتے گر پڑتے۔ قدم قدم پر ٹھوکر لگتی تلوؤں میں کانٹے چبھتے تو آف کر کے بیٹھ جاتے۔ ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے۔ پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا۔ درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ ڈر لگتا تو ٹھٹھک جاتے۔ پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے۔ کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ ٹکاتے اور کبھی ڈبڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔

جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔

ذرا تقدیر کا تماشہ دیکھے! کہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابنِ زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جوان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رُکا جو انہی بچوں پر نظر پڑی قریب آیا اور دریافت کیا۔

تم کون ہو؟

بچوں نے یہ سمجھ کر قیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔

ہائے رے بچپن کی معصومی؟ ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں؟

یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں۔ جلا دوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مشکیں کیسی اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔

یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں چاند کا چہرہ فق ہو گیا۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے دل ہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونجی۔ ہم بن باپ کے بچے ہیں ہماری یتیمی پر رحم کرو! رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ہماری مشکیں کھول دو۔ اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ! سنان جنگل میں قیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالہ درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا۔ لیکن سنگدل اشیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر طمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا۔

”تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لئے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔“

طمانچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں۔ چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔

رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا، ایک گرفتار بچہ کی طرح سکتے، ٹرتے کانپتے، سر جھکائے، شکم میں کسے قدم قدم پر جفا کاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔

اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے۔ کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں آیا۔ بلا خر تھا سادل مایوسیوں کے ساتھ اتھاہ سا گر

میں ڈوب گیا۔

اب موت کا بھیاںک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم یاس میں وہ کشاں کشاں کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی۔

حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔

حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالہ کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔

دو پہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انھیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا وہ بحفاظت تمہیں تمام مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔

قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشہ اس کی طرف دوڑنے لیکر نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔

پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔

پھر رات کا وہی بھیاںک سناٹا وہی خوف ناک تاریکی وہی سنسان جنگل وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب ہر طرف خون آشام تلواریں کا پہرہ قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے۔ تلوؤں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بنے لگے۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔

صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔

ہائے رے تقدیر کا چکر! اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں اور چمند و پرند تک کا اپنا رہن
بیرا ہے۔ لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لئے کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔

جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا
واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لئے ہر طرف نظر دوڑائی
لیکن چھیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔

حیرانی، بیچارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک
دوسرے کا منہ تکتے لگے۔

نخا سادل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ انجام
سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔

تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا۔
”چلو وہاں ہاتھ منہ دھولیں۔ نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر
ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے۔ تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔“

چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا اس کا تنا اندر سے کھوکھلا
تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔

ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا۔ کوئی راہ گیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔
ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے
کے کنارے آئی پانی میں برتن ڈبونا چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ
کر دیکھا تو دونوں ننھے بچے درخت کی کھوہ میں سہے ہوئے بیٹھے تھے۔

سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لالہ کی طرح دہکتے عارض پر موسم خزاں
کی اداسی چھا گئی تھی۔

لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا۔ اے گلشن درباری کے نوشگفتہ پھولو تم کون
ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟

ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و دہشت سے
لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔

لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلوا! کسی طرح کا اندیشہ نہ

کرو۔ دل سے دہشت نکال دو! یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھکارن ہوں۔ دشمن نہیں ہوں۔

تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جنت کے پھول ہو۔

سچ بتاؤ! کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ ”فلک نشیں شہزادو! کیڑے مکوڑوں کے بھٹ سے باہر نکلو۔ آؤ! میرے دل میں بیٹھو آنکھوں میں سما جاؤ۔“

لونڈی کے اسرار پر بچے درخت کی کھوہ سے باہر نکلے اور ہمدرد و غمگسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔

ان کی دردناک سرگزشت سکر لونڈی کا کلیجہ ہل گیا۔ آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بیقرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی۔ آنسو پونچھے منہ دھلایا بالوں کا غبار صاف کیا اور انھیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندانِ اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔

اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا۔
خوش نصیب بی بی! چمنستانِ فاطمی کے دو پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں۔ بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کی بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے درپے ہیں۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لعلِ ڈر کے مارے درخت کی ایک کھوہ میں چھپے ہوئے تھے۔

بی بی! سورج سوانیزے پہ آ گیا ہے۔ لیکن گہوارۂ مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک کھیل بھی اب تک نہیں پڑی ہے۔

مالکہ یہ سارا ماجرہ سن کر تڑپ گئی۔ گریہ بے اختیار سے اس کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ وارفتگی و شوق میں بچوں کو گود میں بٹھالیا۔ چہرے کی بلائیں لیں، سر پر ہاتھ پھیرا، اور ننھلا دھلا کر کپڑے بدلوائے۔ آنکھوں میں سرمہ لگایا۔

زنہیں سنواریں اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹھری میں آرام کرنے کے لئے بستر لگا دیا۔

قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آگئی۔ یکا یک ماما کی گود کا پلا ہوا ارمان چل اٹھا بے تاب ہو کر رونے لگے۔

پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکہ بے چین ہوگئی۔ دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا۔ اپنے آنچل کے پلو سے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا۔

آنکھ کے تارو! اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو! تمہارے قدموں پر میری جان نثار میری روح صدقے میں جب تک زندہ رہوں گی۔ تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی۔ تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے۔ میرے آنکھن میں چھماچھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔

رات کی بھیا تک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔

کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر ”حارث“ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا۔

بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا ”آج اتنے پریشان دے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟“

کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا۔

تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے دو بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش رہے۔ پرسوں صبح کومدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انھیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے۔

ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے کہ جو انھیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔

وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لئے اس سے زیادہ زریں موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم؟

صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ دوڑتے دوڑتے برا حال ہے ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے۔

حادث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ دل ہی دل میں پتھ و تاب کھانے لگی۔ مسرور کر لینے والی ایک ادائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا۔

”ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے۔ انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے! ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے! کل میدانِ حشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟“

حادث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔

جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔

”نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں۔ میرا ارادہ اٹل ہے۔ اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔“

سنگدل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے۔ اس نے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آگئی۔ بالیس پر بیٹھی اسے باتوں میں بہلاتی رہی جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹھری میں تالا ڈال دیا۔

فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ رہ رہ کر دل میں ہوک اٹھتی تھی۔

”ہائے اللہ! حرمِ نبوت کے ان راج داروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟“

دنیا قیامت تک میرے منہ پر تھو کے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دغا کی۔ انھیں جھوٹا دم دلاسا دے کر قتل کی راہ گزر تک لے آئی۔ آہ! میرے عشق پارسا کا سارا بھرم لٹ گیا۔ میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا۔

ہائے افسوس! اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہونگے۔ کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ مجھے اپنے تئیں کیا سمجھیں گے لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جیتے جی لاڈلوں کی جان

پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔

یا اللہ! مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ ان کے آنسوؤں کا گوہر ٹپکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزاں کر دے۔

رات کا پچھلا پہر تھا۔ کونے کی بد نصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا۔

دونوں بچے بند کوٹھری میں محو خواب ناز تھے کہ اسی درمیان انھوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔

چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے۔ باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات حضرت حیدرِ بعت رسول حضرت فاطمہ زہرہ اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جلوہ فرما ہیں۔

دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

مسلم! تم خود تو آگئے اور جو رستم کا نشانہ بننے کے لئے ہمارے جگر پاروں کو اشتیاء کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے۔

حضرت مسلم نے نیچی نگاہ کیے جواب دیا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آرہے ہیں حضور! بہت قریب آچکے ہیں بس دو چار قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامنِ رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھل رہے ہونگے۔

یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری شبِ زندگی کی سحر ہوگئی۔

”بھیا! اٹھو! بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں۔ حوضِ کوثر پرانا حضور ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دادی اماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔“

بھیا صبر کر لو اب دشمنوں کی خوں آشام تلواریں کی زد سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے امی جان اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو

سکے گی۔

چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتے ہوئے جواب دیا۔

”بھائی جان! میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح

کو قتل کر دیئے جائیں گے؟

ہائے! ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گئے بھیا؟

یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ

پھوٹ کر رونے لگے۔

قضا بھی تاک ہی میں تھی۔ نالہ بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔

آہ! سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی۔

ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا۔

”یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آرہی ہے۔“

صورتِ حال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔

اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا۔

”سو جائیے! کہیں پڑوس کے بچے رورہے ہوں گے۔“

سنگدل نے تیور بدل کر کہا۔

پڑوس سے نہیں ہمارے گھر سے یہ آواز آرہی ہے۔ ہونہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں

جن کی تلاش میں کئی دن سے میں سرگرداں ہوں۔“ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھری کے

پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تالا توڑ کر دروازہ کھولا اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے

بے حال ہو گئے تھے۔

کرخت لہجے میں دریافت کیا۔ تم کون ہو! اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے۔

لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ

ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔“

یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ”میں تو چاروں طرف بھونڈ بھونڈ کر ہکان ہو رہا

ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔

یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے بچوں کے رخساروں

پر طمانچے برسانا شروع کئے۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اُٹھے۔ بے تحاشہ بیوی
دوڑی اور کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی۔

ارے ظالم! یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے راج دلارے ہیں! ان کی چاند جیسی
صورتوں پر ترس کھا۔

ہاتھ روک لے ستم گر! جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ! چمنستان قدس کی
نازک کلیوں کو گھائل مت کر!

بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم! پھر مامتا کی جھونک میں اٹھی اور اس
کے قدموں پر اپنا سر پکھنے لگی۔ لے! میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھالے لیکن فاطمہ
کے جگر پاروں کو بخش دے۔

غصے میں چور سنگدل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون
سے ٹکڑا کر لہو لہان ہو گئی۔

طمانچہ مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشکلیں کیں
اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔
مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا۔ حلق کی آواز پھنس گئی آنکھوں کے آنسو
جل گئے۔

اس کے بعد یہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹھری کے باہر نکل آیا۔ جس قدر ترڑپنا ہے صبح تک
ترپ لوڈن نکلتے ہی میری چمکتی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔
دروازہ مقفل تھا۔ اندر کا حال خدا جانے ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ
نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زباناں کی کوٹھری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ
کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔

بلا لاؤ قیامت کو! بڑانا ز ہے اُسے مناظر کی ہولناکی پر سوانیزے والے آفتاب کی
روشنی۔ وہ بھی سیدہ کے شیر خواہ بچوں کی اسیری کا تماشہ دیکھ لے!
اور ذار محشر یوں کو بڑھ کے آواز دو! وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے اشارہ
ابو پر کل ان کی میزیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں
سبک رہے ہیں۔

ہائے رے! مقام بلند کی قیامت آریاں! بڑے بڑے لالہ رخوں مہ جبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دھاڑے لوٹ لیا اور تیرے خلاف کہیں داؤ فریاد بھی نہیں ہو سکی ہے۔

ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی۔ گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا جو نہی دشمن ایمان نے اپنی خوں آ شام تلوار اٹھائی زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹھری کی طرف لپکا نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔

بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے۔ خوف سے زکسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے۔ کہ یہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تمللا اٹھے پچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر ٹپکنے لگے۔ ٹوٹ ٹوٹ کر آہ و فریاد کرنے لگے لیکن سنگدل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا۔

لہو میں شرابور پاک طینت بی بی پھر اٹھی اور بھری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا

آخر تھسٹ کر کہاں لے جا رہا ہے۔ ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی۔ چار دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے۔

ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے۔ تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے۔ رحتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ تھسٹ رہا ہے۔ کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا۔

رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگا تار تیرے ظلم و ستم کی

چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا۔ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اس لئے بے سہارا سمجھ کر تو انھیں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے مازنین شہزادوں کے ساتھ تو ایسا سلوک کر سکے گا۔

تیرے بازوؤں میں بڑا کس بل ہے۔ تو کسی کڑیل جوان سے بچہ لڑا دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہ زوری دکھلاتا ہے۔

اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش اُبل پڑا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔

جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی بد بخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لوٹدی سامنے آئی تو وہ بھی اس کی تیغ ستم سے گھائل ہوئی۔

اس کے بعد ٹھکنے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔

رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم یتیم زندانی اب قتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہروں پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ دم بہ دم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی۔

رہ رہ کے پھٹری ہوئی ماں کی آغوش شفقت و پیار کا گہوارہ مدینے کا دارالامان اور حجرۂ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہ گاہ یاد آ رہی تھی۔

کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھا ہوا طوفان اُبل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا:

جان عزیز صبر کرو! امت سے کام لو! اب زندگی کی گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں انھیں بے تابوں کے پہچان سے رائیگاں مت کرو۔

وہ دیکھو دریائے فرات کی سطح پر چشمہ کوثر کی سفید موجیں ہمیں سراٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو۔ چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع

ہورہی ہے۔ بس دو گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔“
تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا۔

”سانپ کے بچو! دیکھ لو اپنا قتل! یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لئے ایک عبرت ناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔“

یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر شقی ازلی نے انہیں نچر سے اتارا مشکیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔

اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکتے لگے۔

جوں ہی بھویں تانے تیور چڑھائے قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکرو فانی بی بھی آ پہنچی آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عاجز و درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا۔

خدا کے لئے اب بھی مان جاؤ۔ آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگیں مت کرو۔ رحم و غمگساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو! بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے۔ تلوار سامنے سے ہٹالو۔“

نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر چلایا وہ پکیر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب یہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پروار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا۔

”خدا را پہلے مجھے ذبح کرو۔ جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔“

چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی۔ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جاسکے گا۔ خدا کے لئے پہلے میرا سر قلم کرو۔

اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ کونین کلیجہ تھامے ہوئے

مشیت کی ادا پر صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح چل چل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہ و بالا کر دے۔ لیکن قدم قدم پر سرکار کی پرہیزگار آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔

حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لئے ہوئے۔ سرکار کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آن واحد میں جفا شعاروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ روح الامین بال و پر گرائے دم بخود تھے۔ رضواں کوثر و تسنیم کا ساغر لئے انتظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں اپھل مچی ہوئی تھی۔ ملکوت اعلیٰ پر سکتہ طاری تھا۔ کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی ستارہ ٹوٹا اور فضا میں دو ننھی چینییں بلند ہوئیں۔ مرکز عالم ہل گیا، چشم فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئیں، دھارے ٹھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شق ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کئے ہوئے سرخون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھیں، سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم اے امام مسلم کے راج دلار و تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔

خدائے غافر و قدیر تمہاری ننھی تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے۔
پردانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر
اک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا

نوٹ: اس مضمون میں ”معصوم“ کا لفظ ان معنوں میں مستعمل نہیں ہے جن معنوں میں شیخ حضرات کے یہاں رائج ہے۔

جلوۂ زیبا

اُس وقت کی بات ہے جب کہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لیکر مدراس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیرِ نگیں تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت کی دفتری زبان فارسی تھی اس لئے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لئے لکھنؤ کے مشہور فارسی داں ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ ملا جی روزانہ شام کو چار بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی ہی پر ادا کرتے تھے۔

کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالہ رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی چلتی تو فتنہ حشر جگاتی باتیں کرتی تو پھول جھڑتے جمال و رعنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گہرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی! اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک طینت، نیک سرشت اور شریف الطبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اسرار کے باوجود کبھی وہ گر جا گھر نہیں جاتی تھی۔

سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درس گاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعہ اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علوم و

فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلومات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھیں۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح ۸ بجے سے شام کے ۴ بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی کہتے ہیں کہ ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔

ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری۔ جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر حلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔

زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیئت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و موؤب کھڑا رہنا پھر سرنگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لئے اجنبی سے کم نہیں تھیں۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔

دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر طرازی مسلم۔ لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و ہالا کر دیا ہے۔ اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز نشست و

برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے۔ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں۔ اگر واقعاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہونہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔

سوچتے سوچتے سحر ہو گئی۔ لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی دن نکلا۔ لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔

حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لئے تشریف لائے جوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی فرط شوق سے صاحبزادی کا دل اُچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔

شہزادی قبل از وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کئے لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امنڈتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محنت سے کوئی واقف نہ تھا ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ در سے لگ ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امنڈتا تھا خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس رابستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مے نے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا۔ جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔

اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرائین اس پر شیفتہ نہیں

تھے اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ عشاق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و راستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔

ناز کی پٹی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سچ دج سے آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا۔
”فادر ایک درخواست پیش کروں؟ قبول فرمائیے گا“

بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اُٹھی۔ شفقت پداری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرط محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا۔

”میری لخت جگر! ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں۔ لیکن نہ جانے تمہاری افتاد طبع کیسی واقع ہوئی ہے کہ یہ آرزو تشنہ ہی رہی۔ اب جبکہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لئے تمہاری زبان کھلی ہے تو کیا اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا۔ یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جس کے لئے کوئی بات اٹھا رکھوں گا۔“

بیٹی نے نگاہ نیچی کئے۔ رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے مجھے اجازت دیجئے کہ ملاجی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔“

باپ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا!

”اتنی ذرا سی بات کے لئے تم نے اتنی زبردست تنہید باغی میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔“

دوسرے دن ملاجی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کر دیا۔ دورانِ تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملاجی سے کہا۔

اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لئے فراہم کر دیجئے۔“

ملاحی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔
دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔

نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظّم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔

ورق ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جو دو کرم، زہد و عبادت، فقر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی، فرط شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلکانے لگے۔ لالہ کی پگھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک منہمی سی آواز فضا میں گونجی۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خداوند! تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود! تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔“

دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین کی تریسٹھ سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی، سرکار کا جسم ان کا نوارانی پیکر، دربا چہرہ، سرگیں آنکھیں، عطر برساتی ہوئی عنبریں زلفیں، موجہ نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں، جمال سراپا کا ایک ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جونہی آنکھ لگی قسمت بیدار نے آواز دی۔ رحمت و نور اور محبت و دل کشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کونھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی موذن نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کا کلمہ فضا میں نشر کیا۔ آنکھ کھل گئی۔

کلمہ اسلام سن کر دل بے تاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں آج چہرہ بشارت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالہ رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آگئی تھی اب تو گل کدہ فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔

حسن دل کشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی۔ لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملاجی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جوں ہی چہرے پر نظر پڑی۔ ملاجی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔

صاحبزادی نے کہا 'حیرت نہ کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے اور دیکھئے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجئے گا۔ ملاجی بہت کمزور دل آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا۔

”دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے صاحبزادی! نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں۔ جب بھی فلاح و اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہوگئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔“

صاحبزادی ملاجی کی کمزوریوں سے واقف تھی یہ جواب سن کر خاموش ہوگئی۔

فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملاجی کی آمدورفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گواہ دین کو خبر نہیں تھی۔ لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت ہی کا نہیں تو قیور و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خواب گاہ کے اندر کیا کرتی تھی۔ اس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی۔ لیکن ملاجی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین کی زندگی کے سانچے میں

ڈھالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔

سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لئے اٹھتی اور تادمِ سحر گریہ و مناجات تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی کئی دن بغیر کسی ضعف و نقاہت کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی۔

ایک دن ملاجی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں۔ اس لئے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جوں ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی۔ صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملاجی ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز تھی قدم کی آہٹ پاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملاجی سے کہا۔

آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیبِ خدا کی دولتِ عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی اُس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحہ کے لئے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔

آثار و قرآنِ شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ علیمِ قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے۔ میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رختِ سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری کھل کر لی ہے اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے پیکِ اجل کا خیر مقدم کروں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لئے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا اگر آپ یقین دلائیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ملاجی بھی اپنے تئیں سنبھال نہ سکے اور وہ بھی اشک بار ہو گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

”خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے۔ آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے۔ نصی

دشمن مرگ ناگہاں کی خبر سننے کے لئے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں۔ لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے۔ میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔“

صاحبزادی نے راز دارانہ لب و لہجہ میں کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کے علم میں نہیں ہے۔ وہ تاہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کا پیرو سمجھ رہے ہیں گو میں نے آج تک گرجا میں قدم نہیں رکھا ہے۔ لیکن وہ اسے میری غیرت حیا پر محمول کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی قبرستان میں میرا دفن بنائیں گے۔

میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں۔ اس لئے میری مودبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔“

ملاجی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت ہی کے دن فاتح محشر کے لواء الحمد کے نیچے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملاجی کو رخصت کیا۔

صبح کے وقت سارے شہر میں کہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب و احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ اس اچانک حادثہ سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت الم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لئے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم و نغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملاجی بادیدہ پر غم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملاجی

اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کشن صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔

آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملاجی کانپ اٹھے۔ لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔

ملاجی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اٹھ آئے انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے ملاجی سے کہا۔ صدحیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کالوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔

ٹھیک اسی وقت جب کہ رات آدمی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملاجی کے علاوہ چار آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا۔ لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملاجی کی راہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے۔ سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔

جوں ہی لاش نکالنے کے لئے تابوت کا تختہ کھولا، ملاجی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے۔ یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملاجی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا۔ جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے

نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آگئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔

صورت حال کی تفتیش کے لئے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بیساختہ چیخ پڑا۔ یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔

اس واقعہ سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہوگئی دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔

لوگوں نے کہا۔۔۔ یہ بات قرین قیاس ضرور ہے لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے۔ ہم لوگ بارہ بنکی چلے چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔

دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج ان کا تیجا ہے۔ اظہارِ افسوس اور رسمِ تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصالِ ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے۔ تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی تو ادا کر دیں۔ ایک شخص کی راہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کے غایت درجہ ہی خواہ تھے۔ شام و سحر زندگی عیش و عشرت میں

ڈوبی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔

شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب کہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدمی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے۔ یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے اپنے حافظے کی راہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہا جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرات سے کام لے کر ایک شخص نے پاکتی کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جونہی چہرے پر نظر پڑی دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول اور چہرے بشرے سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا۔ تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کشن کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔

نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دل کش خواب دیکھا۔ وہی کشن کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جہرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میرے کفن کا تار تار بارش نور میں بھیک گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف

شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضر باش ہیں۔

جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے اسی خطہ قدس میں جہاں اسی ہزار عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی اسی دن تین لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئی۔

مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا۔ عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بود باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی۔ اس لئے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غایت درجہ اُلفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جاسکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔

فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں۔ موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح بے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کو ہے میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجحندی عشق رسول کا ہی صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے

لئے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نوح انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا ہے۔ کاش! خاکدان گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نکا ہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملاجی کی جب آنکھ کھلی تو اُن پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔

اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ بزرخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیا تک انجام سے لوگ ڈرنے لگے کہتے ہیں کہ ان پانچوں آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یادِ الہی میں مصروف ہو گئے۔

انعام شکست

جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی وہ دیکھنے والوں کے لئے ایک تماشا تھا شخصیت کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ وقت کا بڑے سے بڑا جیوٹ بھی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتا تھا کمال فن کی غیر معمولی شہرت نقطہ انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں رہ گیا تھا۔ اب جنید کا مصرف سوا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ سلطوت کا ایک واضح نشان تھا۔ دربار شاہی میں جنید کے لئے اعزاز کی ایک جگہ مخصوص تھی جہاں وہ بن سنور کر کلفی لگائے خلیفہ کی دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا۔

دربار لگا ہوا تھا۔ اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوہدار نے آ کر اطلاع دی۔

محسن کے دروازے پر ایک لاغر و نیم جان شخص کھڑا ہے۔ صورت و شکل کی پراگندگی اور لباس و پیراہن کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نقاہت سے قدم ڈمگاتے ہیں زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہے۔ لیکن اس کی آواز کے تیور اور پریشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔

آج صبح سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیکنج جنید تک پہنچا دو میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کرو۔ جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے لیکن وہ بھند ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔

چوہدار کی زبانی یہ عجیب و غریب خبر سن کر اہل دربار کو اس آنے والے اجنبی شخص سے

دل چسپی پیدا ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔

تھوڑی دیر کے بعد چوہدار اسے اپنے ہمراہ لئے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم ڈمکا رہے تھے چہرے پر ہوائی اڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔

تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے دریافت کیا۔

”جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں!“۔ اجنبی نے جواب دیا۔

کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لئے اصرار مت کرو جو دماغی جنوں میں متہم کرنے کے علاوہ تمہارے لئے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر نے فہمائش کے انداز میں کہا۔ جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ اسی اعتقاد موہوم کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ قد و قامت کا شکوہ اور بازوؤں کا کس بل ہی فتح و شکست کا معیار نہیں ہے۔ فن کی ذہانت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے اطمینان رکھئے! میرا دماغی توازن اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ سودوزیاں سمجھانے کے لئے مجھے ناصح کی ضرورت نہیں ہے انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے بغیر متعلق بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے اثبات و نفی میں جواب دیا جائے“۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ طور کے ساتھ جواب دیا۔

اجنبی شخص کی جرات گفتار پر سارا دربار دم بخود ہو کے رہ گیا۔ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔

یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ شخص دماغی جنون میں متہم کیے جانے کے قابل ہے۔ دانشوروں کی طرح اس کا انداز گفتگو یقیناً کسی پر اسرار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظاہری بے مائیگی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جیسے کردار کے پیچھے ہونہ ہو کوئی مہارت فن کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔“

جنید بھی اجنبی شخص کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ہزار تجسس کے بعد بھی اس کے سراپا میں فنی مہارت کی کوئی علامت نہیں مل رہی تھی۔ سخت حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اسے اتنا جری بنا دیا ہے۔ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا تھا۔ اس لئے خلیفہ المسلمین کے اشارے

پروزی نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔

”سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ بغد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ اذقع کے عین مطابق ہوگی اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔“

اہل دربار نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھوڑی دیر تک بحث و تمحیص کے بعد بالآخر یہ بات طے پاگئی کہ اسکے چیلنج کو قبول کر لیا جائے خلیفہ وقت نے بھی اس قرارداد پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لئے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی محکمہ نشر و اشاعت کے اہل کاروں کو حکم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔

اطمینان رکھا جائے۔ میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔

اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گہر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر بازاروں میں ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اسی اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں کوئی کہتا تھا۔ ”دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا اپنی چرب زبانی سے سب کو بے وقوف بنا گیا۔ اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔“

اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے۔ وہ نہایت پرکشش اور والہانہ

ہے کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔

بہر حال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و ہنگامہ سے نضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحریر میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انھیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دہا بہ دن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت انھیں خود سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔

اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشاہیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ سیلاب کی طرح امنڈتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔

اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لئے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔

ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالم گیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جس کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے معنوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جو ہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے۔ ورنہ کسی تہی دست و بے مایہ انسان میں یہ جرأتِ کردار کبھی نہیں پیدا ہو سکتی انہی

پریشان خیالات کے ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لئے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔

بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت قرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آکر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زرنگار کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آرہی تھی۔ درباری خدام سروں پر کلغیاں لگائے کمر میں پٹکا باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آچکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔

حضرت جنید کے طرف دار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلارہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا زہرہ پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لئے سامنے آ سکے بلاشبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔

اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا۔ ”میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوحی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانشمندی کے قطعی خلاف ہوا کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی۔ چکمہ دے کر نکل جانے والے اس راہ گیر کو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی۔“

اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے

حالی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ صورت حال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا۔ ناامیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔

ابھی وقت مقررہ میں کچھ وقفہ باقی رہ گیا ہے۔ اس لئے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ نہیں آیا۔ تو یقیناً اسے قابل مذمت گردانا جائے گا۔

منٹ منٹ پر حضرت جنید کے حامیوں کا جوش مسرت بڑھتا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آوازیں کس کر مجمع کے ذہن سے اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے۔ لیکن خود حضرت جنید پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعہ کا انتظار کر رہے تھے۔

مجمع کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ حضرت جنید کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔

وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی۔ ذرا ٹھہر جائے! وہ دیکھئے سامنے گرداڑ رہی ہے ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔

اس آواز پر سارا مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے راہ گیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا آ رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد آثار قرائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔

یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔

ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔

حضرت جنید کے ہمواپورے طور پر مطمئن تھے کہ ابھی چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخانہ جسارت کی سزا کتنی عبرت ناک ہوتی ہے۔

دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشاخیوں کے لئے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا یہ! حضرت جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گردشِ گرد راہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لئے پنجہ بڑھایا اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا۔ کان قریب لائیے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔“

نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا۔ فرمائیے! اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انی بات منہ سے نکل سکی۔

جنید! میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ سیدانہوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ کھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا۔ لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے۔ چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے۔ آج اس کی آبرورکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں مانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بند ہواؤں گا۔

فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی جنید! عالم گیر شہرت

واعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے چہروں کی شادابی کے لئے کافی ہے۔ یقین رکھو آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لئے تمہاری عزت و ناموس کا ایثار کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک ہم قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساگر موجوں کے تلاطم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سردی اعزاز سر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالم گیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لئے دل کی پیش کش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا ”کشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ چمنستان قدس کی پژمرده کلیوں کی شادابی کے لئے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پامیں جذب کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اے خوشانصیب کہ کل میدان محشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زر خرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائیں۔

اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم ٹھونک کر لٹکارتے ہوئے آگے بڑھے اور اجنبی شخص سے نیچہ ملا کر گتہ گئے۔ سچ کچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینتر بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرہ ہائے تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئیں لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔

حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لاسکیں۔ ایک لمحے کے لئے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھالیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی

تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سنائی نہیں دیتی تھی۔ شام تک فتح کا جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔

حضرت جنید اکھاڑے میں اسی شان سے چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بجھے ہوئے طعنوں اور توہین آمیز کلمات سے مسرور و شاد کام ہو رہا تھا۔

ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سروران کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر کی فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی تنگی پیٹھ کے نشانات پر بکھیر آئے تھے۔

رات کی زلف سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشعل بردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے۔

”وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بند ہواؤں گا۔“

کیا سچ بچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھولیں۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن لاڈلوں کی ”ہٹ“ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے چل گئے تو رحمت تمام کو کیونکر گوارا ہو سکے گا۔ کہ ان کے دل کے نازک آگینے پر کوئی آنچ آجائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کر بلا کے لالہ زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نئی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ اے کاش!

آج ہی قیامت آجاتی آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔
آہ! اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لئے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔

حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟
یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرتم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ
خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔

پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔
اب بغداد سے گنبد خضرا کا کلس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا
قافلہ بہاروں کے جلوۂ شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے
ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک
سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور
برستا گیا۔ فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گا۔ سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا
وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔
ایوانوں کے کنگرے جھک گئے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں۔ درختوں کی شاخیں
سجدے میں گر پڑیں۔ بغداد کی زمین جھومنے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے۔ صبانے
خوشبو اڑائی۔ سحر نے اجالا کیا۔ رحمتوں نے فرش بچائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید
کے محن کا چپہ چپہ معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دل کیف و سرور میں
ڈوب گیا۔ درود یوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
کے نعموں سے فضا گونج اٹھی۔

عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ
گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا۔
جنید! اٹھو قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے
ناموس کے لئے کھست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔

سراٹھاؤ! تمہارے لئے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں
عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا
غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رُخ تاباں میں خاکدان گیتی ہی کے

نہیں عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیا کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔

ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگالیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جاں نثار پروانے کو کیا عطا فرمایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیانے جھلک رہے تھے۔ دل کی انجمن تجلیات کو گہوارہ بن چکی تھی لبوں کی جنبش پر کارکنان قضا و قدر کے پہرے بٹھا دیئے گئے تھے غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تار نظر کی گرفت میں آ گئی تھی۔ نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی نظر نظر میں دلوں کی تسخیر کا سحر حلال انگڑائی لے رہا تھا۔

کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا آج اس کے جلو میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔

خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی، طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جونہی باہر تشریف لائے خراج عقیدت کے لئے ہزاروں گردنیں جھک گئیں، خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو، منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارک باد سے گونج اٹھی۔

رضی اللہ عنہم وارضائہم عنہا

دل کی آشنائی

اپنے عہد طالب علمی کی وہ خوشگوار شام میں کبھی نہیں بھولوں گا جبکہ دارالعلوم اشرفیہ مبارکپور کے صدر دروازے پر میں کھڑا تھا۔ لاشی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا دیہاتی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہانپتے ہوئے دریافت کیا۔

مبارک پور میں کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے۔ لیکن اتنا یاد ہے کہ بریلی کے جن مولانا صاحب نے تیرہ سو برس کے اسلام کا چہرہ باطل پرستوں کے اڑائے ہوئے گرد و غبار سے صاف کیا ہے۔ وہ مدرسہ انھیں کے مسلک کا حامی ہے۔

اس واقعہ کو بیس سال کا عرصہ ہو گیا۔ لیکن آج سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھے انسان کے ہیکل میں فطرت خود بول رہی تھی۔ بریلی کے ان ہی مولانا صاحب کی کیف بار زندگی کا ایک رخ اس مضمون میں پڑھئے۔

ارشاد القادری

پرانے شہر بریلی کے ایک محلہ میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی، دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔
بام و در کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔

بالآخر چلتے چلتے ایک راہ گیر نے دریافت کیا۔ آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا۔ دنیائے اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد اہل سنت کے امام، عشق

رسالت کے گنج گراں مایہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج یہاں تشریف لانے والے ہیں انہیں کے خیر مقدم میں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔

پھر اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا۔ ”کہاں سے تشریف لائیں گے وہ؟“

کسی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا۔ اسی شہر کے محلہ سوداگران سے جواب سن کر وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے۔ وہ آنا چاہے تو ہر صبح و شام آ سکتا ہے مسافت بھی کچھ اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنیوالے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم ہر شاعر اہتمام کیا جائے۔

آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کئے بغیر اس سے نہ رہا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں اسے جواب دیا۔ بھائی! پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنے والا کس حیثیت کا ہے؟ کس شان کی اس کی ہستی ہے؟ اعزاز و اکرام کی بنیاد مسافت کے قرب و بعد پر نہیں ہے شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لئے خدا خانے میں جاتا ہے یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرہ کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز و درباہی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے دیرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔

اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے اور لوح قرطاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبتانوں میں جل رہا ہے۔

عشق و ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لئے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ

کبھی نہیں بجھتی۔ اس کے دل کا دھواں کبھی نہیں بند ہوتا اور نقش و نگار جاناں کے لئے اس کے قلمدان کی روشنائی کبھی نہیں سوکتی۔ پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان اُمنڈنے لگتا ہے۔

وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے۔

اور جہاں اہل ایمان کے لئے وہ لالہ کے جگر کی ٹھنڈک ہے وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و جلال کا ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ باطل کے جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شکاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہوتا۔

اور سن لو وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لئے اس کے ہاں صلح و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی کا پیمانہ تو بڑی چیز ہے وہ تو ان دشنام طرازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموسِ عشق کی توہین سمجھتا ہے۔

بارگاہِ رب العزت اور شانِ رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تخریرات کا پہرہ اٹھاتا ہے۔ ہوائے نفس کی ویز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے ”مجدد“ کہتی ہے۔ فرشِ گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لئے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ طلسمِ فریب کی وہ ساری فصیلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کی سربراہی میں جادہ عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لئے کھڑی کی گئی تھیں۔

اس کے فکر و نظر کی اصابتِ علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقویٰ کی التزام، مجدد و شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لئے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے بہت بڑا سنخوڑ بھی ہے لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دین کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوبِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی سے شا

کام رہتا ہے۔

وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز ٹار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے اجازت دے دے لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔

بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم و برتر شخصیت جس کی دینی و علمی شوکتوں کا پرچم عرب و عجم میں لہرا رہا ہے اور جسے عشق مصطفیٰ کی وارفتگی نے دونوں جہاں سے چھین لیا ہے آج اگر وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لئے مائل کرم ہے تو کیا یہ ہماری قسمتوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لئے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے ہیں تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ خوشگوار جنون انگیز موسم اور کیا ہو سکتا ہے۔

بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد اجنبی راہ گیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشان دہی کر رہا تھا۔

امام اہل سنت کی سواری کے لئے پاکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے عمامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیابان آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دل کشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فیروزاں کر رہی تھی اور عند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔

پابوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پاکی اٹھائی آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔

پاکی لیکر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی۔ ”پاکی روک دو۔“ حکم کے مطابق پاکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رُک گیا۔

اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟
اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ بچ بتائیے میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جاتاں“ کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔

اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔

بے نوائی، آشفہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔

کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا۔
مزدور سے کام لیا جاتا ہے۔ ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آہ! آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔

سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا اس لئے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔

چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ مناش بناؤں۔ پاکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آکر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کو مزدوری لیکر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا۔

”معزز شہزادے! میری گستاخ، معاف کر دو لاعلمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے۔ ہائے غصہ ہو گیا جن کے کنش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے کاندھے پر میں نے سوار کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا! کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اسی لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی

رسوائی ہوگی؟

آہ! اس ہولناک تصور سے کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے بالکل اُسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشہ دیکھتے رہے

یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔

چونکہ راہ عشق میں خونِ جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے۔ اس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پاکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔“

اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے۔ و فوراً اثر سے فضا میں چٹخیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ آہ! وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گداز تھا۔ جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لئے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔

شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پکھل گئے کدورتوں کا غبار چھٹ گیا۔ غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے۔ رسول کے ساتھ اس کی دارنگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تاہل نہیں ہوا کہ نجد سے لیکر سہارنپور تک رسول کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔

صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں مناسکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ۔ ایمان کا بخشا ہوا ہے نصانی ہیجان کی پیداوار نہیں۔

ہے ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل

گل سے چمن چمن سے صبا اور صبا سے ہم

دل کا یقین

تقریباً سو برس پہلے کی بات ہے۔ جو پور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا خاندان کا سربراہ سند لعل نامی ایک بڑا زیرک تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بچ شہر کے چورائے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دوکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن ہن برستا تھا۔

لیکن ساری دولت و خوش حالی کے باوجود سند لعل کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رُخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی سند لعل جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز اسے تسلی دیتی۔

”ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجئے۔ سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہاری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔“

حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبیہ کی شہنشاہی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لئے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔

بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی ماما کا سوکھا ہوا چشمہ اسکی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی اس لئے اس کے

دل کی بے قرار یوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور خشک پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی لیکن آنکھوں کے چلن سے دھواں نہیں اُٹھتا تھا۔

محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی آہ و گریہ کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔

سندرلعل سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا۔ جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی دسویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا۔ جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارداح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا۔ لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔

دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے تین مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا۔

”کیوں بہن“ آج تمہارے گھر پر کیا تھا۔ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا۔ ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔“

شریف کی بیوی نے جواب دیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول فرزند بتول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔“

سار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے۔ کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟

سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا۔

”محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں۔ لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے۔ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔“

سار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھکتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں۔ لیکن کسی واقعہ کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔“

اسکے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی

کا آغاز کیا۔

اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لعل کو نہلایا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر ہی سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبخار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے اس کا سوتا دریائے قدس سے جاملتا ہے۔

ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگہ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انھوں نے اپنا سر کٹایا اس لئے اب ان کی بات کبھی نہیں رد ہوئی۔“

ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیادوں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آگئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی انتہا قوت عطا فرمائی ہے۔

دور کیوں جاؤ؟ ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ دھن دولت نوکر چاکر زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بے کار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور وید حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لیکر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔

جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزہ سے تھے شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش! آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن آتش صحرائی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چٹکاری پھوٹنے لگی۔ سالہا سال سے ضبط و کلیب کا تھا ہوا ساگر آج امنڈ پڑا تھا اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی۔

یا حسین! مایوسیوں کے منہ حار سے اب تمہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔

فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راج دلارے ماتنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے اپنے قدموں کے دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو۔ زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔

شہنشاہ کونین کے شہزادے تمہیں کر بلا کے لالہ زار میں منہ پیٹ کر سوئے ہوئے ہزار برس سے اوپر گزر گئے۔ لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راج کماز اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے سرکار!

بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دھکے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا۔ یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی ٹکان تو تھی ہی دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو بڑھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پئے چار پانی پہ لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔

اتنا یاد ہے کہ تن نہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں رات کا وقت ہے۔ اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی۔

”جا! مایوسیوں کے منجد ہار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدالگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔“

اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔

ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا اور ٹھیک نو مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔

سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگ گئی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے دو قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔

حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا۔

ہائے اللہ! تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ پہنچا ہے؟

بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد جلد انجیل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب

خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے آفاقہ ہوا تو بھرا آئی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

”بہن! تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیونکر سنیں گے۔ کاش!..... میں بھی ان کے گھر کی لوٹڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔“

اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرط اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔

ایسا مت سوچو۔ ان کے نانا جان سارے سنسار کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لئے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے۔ وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کار سازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔“

یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈھنے کے انداز میں کہا۔

تو بہن! پھر ہمارے لئے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔“

شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کئے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔

سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف

منہ کیا اور دل میں شہزادہ کو نین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔

دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملے گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائیگاں نہیں جائے گی۔

دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دلہی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لئے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کارفرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی۔

لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔

امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آئینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں از گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔

اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا

جہاں سے دسویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔

انہی پرسوز اور جاں گسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونک دہم کے درجے میں تھی اس لئے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔

جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔

اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا۔ میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔

بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جاسکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے۔ میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا۔ وقت کا انتظار کرو۔

شہر کی سب سے مشہور دایہ نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔

فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔

کربلا والے شہید میری غلطی معاف کر دو۔ میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اپنی لاعلمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا امکان کیا ہے۔ دیا لو مہاراج! میں اپرا دمی ہوں۔ اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔

اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرہ کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو اٹھ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگہ گھاٹ میں سنار کی بیوی کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا۔ ”بل بک یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لئے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا فریادی کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم

خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔

سنار کی بیوی نے جواب میں کہا۔

بی بی۔ اپنی سرگزشت کہتی ہوں یقین کرو۔ میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے فتنی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا ورنہ میرے دل کا دشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے اسے آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔

بہن! آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکتا۔

خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندھ دشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں تہج دیا ہے۔

آج صبح ہی سے سنار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی اندر سے لیکر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔

آج اس کے یہاں بچی تولد ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا مامتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرط مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا۔

شہید کربلا کا اقبال سلامت! آج انہی کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لئے سارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اٹھاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔

فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سنار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کا گن گار رہے تھے

بعض عورتوں سے سار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں۔ لیکن اس نے ان کے روٹھنے کی کچھ پروا نہیں کی۔

چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش و پرداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی کئی مائیں رکھی گئیں ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی؟ حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران و ششدر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سار کے گھر میں آسمان کی زہرہ اتر آئی ہے۔

ماں باپ پیار سے اسے لالہ کہتے تھے آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالہ جب ڈرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے۔ یہاں تک کہ چودہ سال کے سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن و لہریں ہی کیا کم تھا۔ کہ اب و معنوی جمال سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔

شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو وہ مجسم ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پر یزاد کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زدہ ہو گیا تھا۔ ماں باپ بچپن ہی سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے اور اب تو سوائے ہاد صبا کے کوئی اس کی خواب نگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جاسکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہا کرتی تھی۔ کہ ہوس پرستوں اور بد قماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لئے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کب تک تنگی تلواروں کا پہرہ اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا۔

جس ماحول میں اسکی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شراہور رہا کرتا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے۔ لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا دارفتہ عشق بنا دیا تھا

جیسے کر بلا ہی کی خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔

اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار دسویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کر بلا کی درد انگیز سرگزشت سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کی پلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔ سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لئے تیار ہو جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ خواتین کی بزم میں پہنچ کر وہ ماہ کامل کی طرح سب میں نمایاں اور روشن رہتی تھی۔

جب اس کی عمر اٹھارہ سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عشاق کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس گھر کے دیدار کے لئے آتے رہتے تھے۔ جو اس غیرت مہ و انجم کی چاندنی کا گہواہ تھا۔

بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر شیفتہ تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا قوی ہیکل غنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا جو اس کی شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لئے آئے دن دوشیزاؤں کے گھروں پر چھاپہ مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج ہٹ مشہور تھی۔

سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کی ساری کوششیں جب بیکار ہو گئیں۔ تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ”جونپور کے سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔“ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر ایسا ہوتے ہوئے کہا۔

راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لئے تم نے اتنی بڑی قسم کھالی ہے۔ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے۔ اس کا گھر پھینکواؤں کی اور اس کی بیٹی کو

لوٹدی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر کے اپنی جان مت گھلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے۔ لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لئے سب کچھ کیا جاسکتا ہے۔“

دوسرے دن اپنی مخصوص دائی کے ذریعہ اس نے رشتے کا پیغام سار کے گھر بھیجا سار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا۔

اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ راج ماما سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔“

جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ سچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔

دیکھنا ہے وہ آسمانی حور کی شادی کہاں کرتی ہے۔ دلہن کی بھی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں۔“

ایک دن لالہ کی ماں نے بیٹی کا رخ معلوم کرنے کے لئے یہ ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹی زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اجازت دو تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔“

”لالہ نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا۔“ مجھے تم پرانے گھر بھیجنا ہی چاہتی ہو تو میرا پر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے بھی نہ دیکھا ہو۔“

بیٹی کے مزاج اور اس کی رزح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور حسن و شکل ہی نہیں اسکے خصال و عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق طبیعت کا پیمانہ ہی سب سے جداگانہ تھا۔ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی نہ دل بہلانے کے لئے اس نے کوئی کھیل کھیلا تھا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرزِ مرگی کی خوگر بن گئی تھی۔“

اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیئے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔

کافی عرصہ کے بعد ایک دن سار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی۔ دورانِ گفتگو میں

لالہ کے رشتے کی بات نکل آئی سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا۔

سنا تھا کہ لالہ کے لئے بہت سے پیغامات آئے ہیں۔ ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا۔
زیادہ مت انتظار کرو۔ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پہلے کر دو۔ جوان بٹی سر پہ
بوجھ بنی رہتی ہے۔“

سنار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا۔

بہن کیا بتاؤں؟ ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لئے بہت پریشان ہیں۔ جتنے بھی
پیغامات آئے تھے۔ وہ سب واپس کر دیے گئے۔

درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا۔

کیا ان میں سے کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟“

سنار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا۔ بہت سے رشتے خاندان کے
معزز گھرانوں سے آئے تھے۔ کچھ رشتے زاجاؤں اور جاگیرداروں کے بھی تھے لیکن لالہ
نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔

بہن! تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے۔ بچی کی مرضی
کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ۔ بے چھوٹی ہوئی شاخ
کی ایک نازک کلی ہے کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا براہی
جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے
لالہ کے بابو جی ایسے برکی تلاش میں مگر مگر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی
سراغ نہیں مل رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالہ کے
ساتھ دھوکا نہیں کریں گے۔ جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔“

سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری لالہ جس
گھر کی خیرات میں ملی ہے اس کی دیواروں کا سایہ تو اس پر پڑنا ہی چاہیے۔ برا نہ مانو تو مجھے
ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں ہے سنار کی
بیوی چونک کر دریافت کیا؟

بہن تمہاری بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی کیا نصیب دشمنان میری لالہ کے دن

خراب آنے والے ہیں!

سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ توبہ کرو! کیسی منحوس بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالہ پر پاک روحوں کا سایہ ہے کبھی اس کے خراب دن نہیں آسکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی باگ ڈور کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔“

تھوڑی دیر کے بعد جب سنا کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا۔ اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکا۔ نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا۔

مبارک ہو کچھی! بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق برل گیا۔ یہاں سے سات میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر پچیس سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے اسے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے۔ گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھالینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔“

بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

”بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے۔ مالک کا نام لیکر کل شہ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔“

میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنا نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔“

سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔

لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سنا رہی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھوم سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبھے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لئے اس کے گاؤں پہنچ گئے لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔

آج سنا کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آگئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیاں بچ رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالہ دلہن بنائی جا رہی تھی۔ ایک مہینے تک ہلدی کے ابٹن نے اسے آب زر کی طرح چکا دیا تھا۔ فنکار مشاطاؤں نے جب اسے بنا سنوار کر تجلہ عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو کے رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بچ میں سیندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگٹ کا چلمن اس ماہ دش کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرط حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالہ زار کی پری اتر آئی ہے۔

آج حسن و شباب کا عروج اس نقطہ انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیئے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں مہ لقا ئیں محروم واپس لوٹ گئیں جو اس زہرہ جمال کا شہرہ حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔

شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں چلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جونہی بارات دروازے پر پہنچی دولہا کو دیکھنے کے لئے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوٹی موٹی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔

رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔

کہتے ہیں کہ آری درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دلہانے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کر رہ گئے۔ دلوں کے نازک آئینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔

دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دولہن کی پاکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو بیس سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا آج اسے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔

سید شریف کی بیوی لالہ کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر بلا والے سرکار کی دہائی دی اور پاکی میں سوار کر دیا۔

آہ و نالہ اور گریہ بکا کے شور میں لالہ پرائے گھر کے لئے رخصت ہو گئی۔ کہاروں نے دلہن کی پاکی اٹھائی دولہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔

جب سے ایک غریب سنار کے ساتھ لالہ کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا جاگیردار کی راجپوتی بیوی غیظ و حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔

آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہرکارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آکر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد دولہن رخصت کر دی جائے گی۔

یہ خبر سنتے ہی راجپوتی کا چہرہ تھما اٹھا تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پاکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے لکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔“

بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ کسی طرح کا چٹامت کرو ماں! سارا انتظام

کھل کر لیا گیا ہے۔ نورالدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں انتظار کرو شام ہوتے ہوئے پاکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔

نورالدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا جس کی لمبائی آدھ میل اور عرض تین میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیہ تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کہار دولہا اور دولہن کی پاکلیاں لئے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ بارانی پیچھے رہ گئے۔ جونہی بیچ جنگل میں پہنچے قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلوار چمکاتے ہوئے دس پندرہ کڑیل جوانوں نے پاکلیوں کو گھیر لیا۔ کہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشہ پاکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔

سنان جنگل میں دو منہی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو لٹکارتے ہوئے کہا۔

ان دونوں پاکلیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو۔ عام راہگزر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں دولہا کا کام تمام کر کے نئی نویلی دولہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالہ پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی دماغ ماؤف ہو کر رہ گیا تھا۔ ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سننے ہی لالہ کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دولہا اپنی پاکی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ دو سپاہیوں نے اسے ری سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دونوں پاکلیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر کھنی جھاڑیوں کے درمیان انھیں رکھ دیا۔ اس کے بعد ری میں جکڑے ہوئے دولہا کو پاکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لئے دو سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالہ اس منظر کی تاب نہ لا سکی وحشت اضطراب میں پاکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے، سہجے میں کہا۔ پہلے مجھے قتل کرو میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔“

لالہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت جمال سے قاتلوں پر سکتہ طاری ہو گیا ہاتھ لرز گئے اور تلوار چھوٹ کر گر پڑی اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالہ کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومے ہوئے کہا۔

اب اس وقت سے تمہارا پتی میں ہوں۔ بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کر لیا۔

یہ کہتے ہوئے وہ لالہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالہ کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی۔

”یا حسین! میری لجا کو بچاؤ۔“

یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پتے ہوئے کہا۔ ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے۔ دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔

یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو لاکارا۔ اب دیکھتے کیا ہو تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے دو ٹکڑے کر دو اور اس ادھری لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ اب پاکی پر لا کر لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ ماں کو بچن دے چکا ہوں کہ سورج است ہونے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔“

اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر دو سپاہی رسیوں کا شکنجہ لے کر لالہ کے قریب پہنچ گئے امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ تلوار اٹھ چکی تھی۔ شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالہ کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کر بلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آئینہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر پندرہ لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکیں تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔

جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالہ اور اس کے شوہر کی پیشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کیلئے بے ساختہ زمین پر جھک گئیں۔ کر بلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے لالہ اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔

اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔

جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرہ کہہ

سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کھرام برپا ہو گیا بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹنے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لالہ کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم میں ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعہ کے اضطراب سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی بھی افتاں و خیزاں وہاں پہنچ گئی تھی۔

پاکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انھیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کند الگ پڑی ہوئی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان میں خون کا دھبہ نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیراہن کی ایک جھلک نظر آئی۔

مشعل لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دولہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔

دور حیرت میں منہ سے چیخ نکل پڑی دولہا، دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ بے تحاشہ دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا سارا اس کی بیوی اور دولہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔

طلسم ہو شرابا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لئے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پاکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات بھیک چکی تھی لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سار کے دروازے پر ٹھٹھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ دولہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لئے بے چین تھے۔

اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالہ اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دولہا بھی سکتے کی

حالت سے باہر نکل آیا تھا۔

ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے لالہ سے دریافت کیا۔ بیٹی! کیا واقعہ پیش آیا کچھ تو سنا دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔“

لالہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔

سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔

کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی برق آسا ایک تلوار چمکی! ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا۔ معلوم نہیں!

کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لئے زمین پر گر پڑے۔

کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سارے گھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ بے خودی کے کیف میں لالہ کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی۔“

حسین! تم سچے تمہارا دھرم سچا اور تمہارے جس نانا جان نے تمہاری آتما کو اتھاہ شکتی بخشی ہے وہ سچے۔

حسین! تم گواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم قبول کرتی ہوں۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوانیزے پہ چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہ اس دن دولہا اور دولہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی غیبی چارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کے آزار میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔“

دل ہی ڈبوئے دل ہی ترائے
دل دوست نہ دل سا دشمن

ایک دوشیزہ

پنڈت لالہ رام کاسی کے پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند کے سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہزار تمناؤں کے بعد اُدھیڑ عمر میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ ماں کی ماما اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اُٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا۔ اسکی تعلیم و تربیت کے لئے کئی کئی اتالیق مقرر کر دیئے گئے۔ قامت و رُخ کی دل کشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ چودہ برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتائے روز گاہ ہو گئی۔

حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے تڑکے جب وہ گنگا اُٹھان کرنے کے لئے نکلتی تھی تو راہنڈر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کی وہ ایک مجسمہ تھی۔ گھر سے نکلتے وقت پلوں کی جو چلمن گرتی تھی تو وہ گھر ہی واپس آ کر اوپر اٹھتی تھی۔ گھاٹ یا راستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ سال میں ایک بار وہ ہنومان مندر میں پوجا کے لئے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پوجا کے موقع پر وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ دور دور سے نادیدہ عشاق اس کے خرام ناز کا محشر دیکھنے کے لئے مندر کے آس پاس پجاری کے بھیس میں وہاں جمع ہو جاتے تھے۔

مقرر اچودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاح کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ لیکن ماں نہیں چاہتی تھی۔ کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لئے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا بر تلاش کرتی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کے لئے بھی تیار ہو۔ اس لئے جتنے بھی رشتے آتے تھے۔ انہیں مسترد کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا۔ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔

ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اوبرنگ زیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خاں نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا تھا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ظالم اور عیاش شخص تھا۔ اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اسکی ہولناک نگاہوں کی زد سے کسی نو شگفتہ کلی کا بیج نکلتا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس کلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن جاسوسوں نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع بہم پہنچائی۔

حضور ناحق پریشان ہیں اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اسی بنارس میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالہ رام کی بیٹی شکنتلا اس کنول کا پھول ہے۔ جو سارے جمیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے کاکل و رخ کا اسیر ہو چکا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاتے ہیں اور اس دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جیسے مے خانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے۔ تو ہر طرف کالی گٹھاؤں کا موسم امنڈنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے رو پہلے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے جیسے کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔

یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب برہنہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بدست شرابی کی طرح

بہکتے ہوئے انداز میں کہا۔

تم اس کے گھر کا صحیح صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ بھی خبر لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔“

دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی۔
”کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لب دریا اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اٹھان کرنے کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی وقت ہے۔“

آج کئی دن سے پنڈت لالہ رام کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی الگ پریشان تھی۔ شکنتلا الگ متفکر تھی۔

صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے تھے۔ بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے۔ بلا آخر ایک دن ماں بیٹی دونوں بھند ہو گئیں۔ کہ آپ اپنی پریشانیوں کی صحیح صحیح وجہ بتائیے۔ کس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کس فکر میں آپ شب و روز غلطاں رہتے ہیں۔

بہت دیر تک تو پنڈت نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غم کا دباؤ قابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی بھی اپنے تئیں ضبط نہ کر سکیں بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔

بڑی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کی اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔

”یہاں کے کوتوال کے متعلق ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی جو داستانیں شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹی کی آمد اس کے حرص و آز کی درندگی سے محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ جب تک کہ وہ عفت و عصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا۔ اس کی رات چین سے نہیں کھتی۔ آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بدطینت شقی القلب اور بدست فرمانروا نہیں آیا تھا۔ آہ! کتنی مظلوم روہیں آج اس کے زخموں کی ٹیس سے بے چین ہیں۔ کسی کو کیا معلوم؟“

ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھر روتے روتے اس کی ہچکیاں

بندھ گئیں۔ ماں بیٹی پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سخت حیران تھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کسی صدمے نے اس طرح گھائل کر دیا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔

آج چھٹا دن ہے کہ اس کے دو سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس لئے کہ اس سنگدل کی سرشت سے واقف ہوں۔ بہر حال اس کی حکومت ہے۔ چارو ناچار مجھے جانا پڑا۔ لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے سپاہی جھٹ پٹ گئے تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے۔ جب کہ کسی کے گھر کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔

پنڈت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ بار بار مجھے اپنے خاندان کا ناموس یاد آ رہا تھا۔ بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس رہ کیا جائے گا؟ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ مجھے اسی حالت اضطراب میں وہ چھوڑ کر اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا۔

ایک ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں شکنتلا کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لگی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے اپنے یہاں اٹھوا منگواؤں گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے الفاظ ہیں۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ سکتا ہے۔ مگر میری زبان کے یہ الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے۔“

کہانی کے آخری حصے میں پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا اب اس گریہ و ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئیں۔ عورت کا دل یونہی نازک ہوتا ہے اور وہ بھی ماں کی ماما! گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔

ماں کا دل اس وحشت ناک صدمے کی تاب نہ لاسکا۔ وہ فرط غم سے بیہوش ہو گئی۔

شکنتلا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا دینا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آ گیا۔

پنڈت کی آنکھوں کا آنسو ابھی جذب نہیں ہوا تھا کہ اس نے پھر بھرا آ کی ہوئی آواز میں کہا۔

ایک دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے۔ جتنا رونا ہے رولو۔ کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی شکنتلا کو ہمیشہ کے لئے ہم سے چھین لے جائیں گے۔ آہ! کل ہمارے گھر سے شکنتلا کی ارتھی اٹھے گی۔ ہماری آرزوؤں کا چمن تاراج ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔

یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شکنتلا اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔

”باپو جی! آٹھانہ توڑو۔ وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ۔ بھگوان کی کرپا ہو گئی تو یہ گھر کٹ جائے گی۔ اور مان لو اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی گنگا جی کی چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے۔“

بیٹی نے اصرار کر کے اپنے باپ کو خودکشی سے روک دیا۔ اس کے بعد بٹھار کر سمجھانے لگی۔ باپو جی! آپ اتنا نراش نہ ہوں۔ تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھا بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کو کوتوال کے پاس جائے اور اس سے کہئے کہ شکنتلا کی ڈولی سجانے کے لئے ہمیں ایک مہینے کی مہلت دے۔ آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہم کیسے رخصت کر دیں۔ باپ ہونے کے رشتے سے آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں۔ زیادہ نہ کہی تو کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا۔“

باپ نے پوچھا۔ مان لو! اس نے مہلت دے دی تو پھر ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔“

بیٹی نے آنکھیں نیچی کئے ہوئے جواب دیا۔ ایک مہینے میں حالات بدل جائیں گے۔ باپو جی! وہ شاخ ہی نہ رہے گی جس پر آشیانہ باندھنے کی نوبت آئے۔ بہتر ہے آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ پوچھئے۔

دوسرے دن کوتوالی میں سپاہیوں کا دستہ تیار ہی کھڑا تھا کہ ہانپتے کانپتے پنڈت جی

پہنچ گئے۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا۔

شکنتلا کی ڈولی کہاں ہے۔ پنڈت نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔

حضور! وہ تو آپ کے چرنوں میں آنے کے لئے بالکل تیار ہے۔ مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑوں پر کیسے رخصت کر دیں۔ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لئے ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اس لئے سرکار ایک مہینے کی مہلت ہمیں پروان کریں تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا کچھ موقع مل سکے۔

یہ غیر متوقع جواب سن کر بڑھے کوتوال کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا۔

ضرور تمہیں ایک مہینے کی مہلت ملے گی۔ لیکن اس کے بعد اب مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی۔ اس لئے جو تیاری کرنی ہے۔ اس مدت میں کر لو اور دیکھو! اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہر طرح تیار ہوں۔“

پنڈت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شکنتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ اسے اپنے تئیں اس مصیبت سے نجات پانے کے لئے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی۔

دوسرے دن شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا۔

پتاجی! مغل شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ بالکل ہو بہو اسی طرح میرے لئے بھی دو جوڑے تیار کرا دیجئے۔ چوڑی دار پانجامہ انگر کھا نما قبا۔ کمر میں زریں پٹکا اور کھواب کا سفید عمامہ۔ باپ نے ایک دو روز میں شکنتلا کی یہ فرمائش پوری کر دی۔ لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا پیراہن لیکر وہ کیا کرے گی۔ بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا۔ اس لئے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لئے کھل نہیں رہی تھی۔

سارا سامان مکمل ہو چکنے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے ماں باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا۔

اب میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ایک مہینے سے دو دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چٹانہ کریں گے۔

میں جہاں بھی رہوں گی محفوظ رہوں گی۔ میری گمشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ مجھے پورا دشواس ہے کہ میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا۔“

اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خواب گاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا کھولا۔ سفر کے لوازمات سے اسے آراستہ کیا اور اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئی۔

آج جمعہ کا دن تھا بھارت کی راجدھانی، دہلی میں عید کی طرح سے چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ گلی گلی سے علماء و مشائخ کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ علم و تقدس اور طہارت و عرفان کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بکھر گئے تھے۔

لال قلعہ کے کنگورے سے پہلی توپ سر ہوتے ہی زریں پوشاک میں نقیبوں کے دستے باہر نکل آئے اور شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دورویہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

شاہانہ کروفر کے ساتھ صاحبزادے شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگ زیب کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ آگے آگے کلغیاں لگائے، نیکی تلواریں لئے ہوئے مصاحبین کا دستہ چل رہا تھا۔ شاہی سواری جدھر سے گزری مبارک سلامت کی دعاؤں سے فضاء گونج اٹھی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگ زیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا خراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔

اب خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔ عرفاء و عشاق کے ہجوم میں جمعہ کی نماز دو گانہ ختم ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد شور بلند ہوا کہ سلطان اورنگ زیب سنتوں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے زینوں پر ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے فریادی اپنی اپنی عرضیاں لئے کھڑے تھے۔ سلطان جونہی دروازے سے باہر نکلے ملک کے عرائض نویس قلم دان لئے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔

ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم

صادر ہوا۔ عرضی نوایں نے قلم بند کر لیا پھر آگے بڑھے پھر عرضی پیش ہوئی، حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری زینے تک چلتا رہا۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سر پہ کخواب کی دستار لپیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچے۔ وہ اپنی عرضی لئے آگے بڑھا۔ سلطان نے جونہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بارحیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا۔

”اس نو جوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔“

شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نقیبوں کے ہمراہ وہ نو جوان قلعہ معطی کی طرف چل پڑا۔ غازی محی الدین اورنگ زیب عالم گیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر فروکش ہوئے نقیب نے اس نو جوان کو فوراً پیش کیا۔ سلطان نے اپنی نظر نیچی کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا دربار فوراً خالی کر دیا جائے۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے اپنا شاہی دو شالہ نو جوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

”بیٹی! لودستار اتار کر یہ چادر اوڑھ لو۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔“

یہ الفاظ سن کر نو جوان پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔

پھر سلطان نے کہا ”اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ۔ میں تمہاری فریاد ہی سننے کی لئے یہاں بیٹھا ہوں۔“

بات اب ضبط سے باہر ہو گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔

”دیا تو بہار؟“ میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سار ہی ہوں کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے ”بیٹی“ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات کی لڑکی ہوں۔

ساتھ ساتھ جواب دیا۔ جب تو اور بھی تمہاری دلجوئی میرے لئے ضروری ہوگی تاکہ یہ بھید تم پر حل جائے کہ اسلام اپنے فرمانرواؤں کو کتنا فراخ دل بنا دیتا ہے اور جن قوموں کا وہ ذمہ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا حیرت انگیز اور روح پرور ہوتا ہے۔ اس

لئے یہ جاننے کے بعد بھی تم ایک برہمن زاوی ہو۔ میرا جذبہ شفقت پھر تمہیں ”بٹی“ کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔

شکنتلا یہ جواب سن کر حیرت و مسرت کے اچھا سمندر میں ڈوب گئی۔

سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک سرگزشت کو سنانا شروع کیا۔ سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا۔ ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا۔ کبھی پلکیں بھیگ جاتیں۔ کبھی فرط غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اسی عالم اضطراب میں کہانی تمام ہوئی۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا۔ ایک مہینے کی مہلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ تم فوراً اپنے مستقر پر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہارے ڈولے کا انتظام کریں۔“

یہ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے میں اپنی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے اُلٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ نقیبوں کا ہجوم دیوان خاص کے باہر کھڑا تھا۔ ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ معلیٰ تک پہنچا دیا۔ سیدھے وہ سرائے پنپنی اپنا گھوڑا لیا اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی۔ بار بار وہ یہی سوچتی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بٹی کا خطاب معمولی چیز نہیں ہے وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔

ماں باپ نہایت بے تابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی۔ ماں خوشی سے چیخ اٹھی۔ شکنتلا آگئی۔“

بٹی کو بخیر و عافیت دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شکنتلا کا یہ گناہ سفر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا۔ رات کے وقت ماں نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دریافت کیا۔

”بٹی تو اتنے دن تک کہاں تھی؟ اب تو بتا دے کہ ہم سرانجام دے کر لوٹی ہے مدت مقررہ میں اب دو ہی روز کا وقفہ رہ گیا ہے۔ معلوم نہیں ہم لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔“

ماں کی آواز میں اتنی دردناک مایوسی تھی کہ شکنتلا کا دل بھر آیا۔ ناکامی کی چوٹ ابھر

آئی۔ بے اختیار رونے لگی۔ ماں نے فرط محبت میں بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد شکتلا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔

میں دہلی گئی تھی۔ شہنشاہ کے حضور میں اپنی فریاد پیش کی لیکن افسوس کہ وہاں بھی میری فریاد رایگاں گئی۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ڈولا سجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دیا جائے۔ میں اس حکم کی تعمیل ضرور کروں گی چاہے میری جان چلی جائے۔ کیونکہ شہنشاہ نے مجھے ”بیٹی“ کہا ہے۔ ایک برہمن زادی اپنے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتی۔

شکتلا کی یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہو پائی تھی۔ کہ پھر گھر میں کہرام مچ گیا۔ ماں باپ نے لاکھ سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔

تیسرے دن سپاہیوں کی حفاظت میں شکتلا کا ڈولا تیار کیا گیا۔ دن دھاڑے غشی پر غشی آنے لگی۔ سارے محلہ پر کوتوال کے مظالم کی ایک بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔

بوڑھا کوتوال آج خوشی سے پھولے نہیں سارا ہاتھا۔ ایک ملکہ حسن آج اس کے گھر دولہن بن کر آرہی تھی۔ بالوں میں خضاب آنکھوں میں سرمہ لگائے سر سے پاتک چھبیل بنا ہوا تھا۔ جیسے بڑھاپے میں عہد شباب پلٹ کر آ گیا ہو۔ شکتلا کے ڈولے کے ارد گرد شہر کے بھکاریوں کا جھوم اکٹھا ہو گیا تھا اور انہیں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ ساری راہ گزر پر تماشا یوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے لیکن کوتوال کے قہر کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔

اب شکتلا کا ڈولا کوتوالی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر کوتوال کو اطلاع دی۔

”سرکار“ ڈولا اب بہت قریب آ گیا ہے۔ بس چند قدم کے فاصلے پر ہے۔

کوتوال نے اپنی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

ڈولا اس وقت دروازے پر نہ لگایا جائے جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں سے خیرات نہ تقسیم کر لوں۔

اب ڈولا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوتوال شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ پیسے لٹانے لگا۔

بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا حاکمانہ غرور انگڑائی لے کر جھاگ اٹھا۔ جیسے ہی وہ پیسے لٹا کر ڈولے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا

کہ ایک بڑھے فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔

”سرکار“ کا اقبال سلامت مجھے بھی کچھ بخش ملے۔“

کوٹوال نے تیور بدل کر جواب دیا۔ زمین پر یہ گرے ہوئے پیسے تجھے نظر نہیں

آتے۔ اٹھالے انہیں تیرا دامن بھر جائے گا۔

بوڑھے نے پھر خوشامد کرتے ہوئے اصرار کیا۔ نہیں سرکار! زمین کے گرے ہوئے

پیسے میں نہیں لوں گا۔ میں تو یہ ارمان لے کر آیا ہوں کہ سرکار ہی کے مبارک ہاتھوں سے

کچھ خیرات لوں گا۔“

بوڑھے کے پیہم اصرار سے مجبور ہو کر کوٹوال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بے!

نہیں مانتا ہے تو لے۔“

یہ کہتے ہوئے جوں ہی اس نے پیسے دینے کے لئے ہاتھ بڑھائے۔ بڑھے فقیر نے

اپنا سیلا کچیل لباں اتار کر پھینک دیا۔

اب جو نظر ابھی تو سامنے شہنشاہ اورنگ زیب کھڑے تھے۔ کوٹوال خوف سے کانپنے

لگا۔ وہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا۔ چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ بت کی طرح

بے حس و حرکت کھڑا تھا کہ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا۔

کیوں بے ننگ اسلام؟ اسی کر توت کے لئے تجھے بنارس بھیجا گیا تھا۔ دن دیہاڑے

میری رعایا کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ ایک ہولناک قہر و ظلم کا یہ تماشا

رچاتے ہوئے تجھے اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اورنگ زیب کی تلوار

اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھتی۔ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ سارا ہندوستان

اسلام کی پناہ میں ہے۔ یہاں کے اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان

کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔

فرط غضب سے شہنشاہ اورنگ زیب عالم گیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے

چنگاری پھوٹ رہی تھی اور کوٹوال کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔

اسی درمیان میں دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ موجود ہوا۔ کوٹوال کی طرف اشارہ

کر کے شہنشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا۔

اس سپہ سالار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے لئے اس کا انجام تماشائے

عبرت ہو اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دوخونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مختلف سمت دوڑایا جائے۔ یہاں تک کہ زمین پر اس بد بخت کے ریزے ریزے بکھر جائیں۔

شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کے لئے فوجی دستہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ سارا بنارس شہنشاہ اورنگ زیب کے آدازہ رحم و انصاف سے گونج رہا تھا۔ شہنشاہ کی دانشواری رعایا نوازی اور بے لاگ قوت فیصلہ پر ہر شخص مبہوت ہو کے رہ گیا تھا۔

شکنتلا کا ڈولافٹح کی مسرتوں میں ڈولتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بجلی کی طرح شہنشاہ اورنگ زیب کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ واقعہ کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر جیسے ہی پہنچی۔ شہنشاہ اپنی ”بیٹی“ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا۔

پیارے کی شدت سے بے تاب ہوں سب سے پہلے مجھے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں۔ جس دن شکنتلا نے میرے حضور میں اپنی فریاد پیش کی اسی دن میں نے اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو اس کا انصاف نہیں دے لوں گا۔ اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔“

شکنتلا نے دو شالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ بھارت کے سوامی! مجھے پورا دشواش تھا کہ جسے آپ نے اپنی بیٹی کہا ہے اس کی لجا بچانے ضرور آؤ گے اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیائے تم سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا۔ اسی لئے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترہ پہلے ہی بنا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے اسی چبوترے پر پانی اور بھوجن کا بھی انتظام ہے۔“

حضرت اورنگ زیب نے پہلے وضو کر کے شکرانے کی دو رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ کھانا تناول فرمایا اور پانی کے چند گھونٹ پی کر جونہی واپس ہونا چاہتے تھے کہ پنڈت لالہ رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔

جہاں پناہ! جس بھومی کو آپ نے اپنے بچدوں سے پوتر بنا دیا ہے۔ اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے اس زمین کو

مسجد کے لئے وقف کرتے ہیں۔“

شہنشاہ نے اس کے اس علان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر یہ تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گئے۔“

چنانچہ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام دھریا کی مسجد ہے۔“
سید العلماء حضرت مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ صاحب قادری دامت برکاتہم نے تانبے کے پتر پر حضرت اورنگ زیب کا وہ تاریخی دستاویز پچشم خود ملاحظہ فرمایا ہے آج بھی اسی خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے۔

سوداگر کی بیٹی

کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جساتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہ خانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مہ جہیں دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی حسن و جمال کا ایک مرقع تھی، چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔

اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اُسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا! ”وزیر“ آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک مہ کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و تکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا غارت گر ہوش میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔“

وزیر نے گھر کا پہاڑی نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جہاں ”پناہ“ صبر سے کام لیجئے شاہی اقتدار کے لئے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت

اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لئے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں۔ یہ مہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے!

شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاطر مخبروں کے ذریعہ سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لئے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔

بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ دروازہ پر بلا کر کس نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں۔ چچا نے ٹکست خوردہ لہجے میں جواب دیا۔ شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے۔ کہ کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرین مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیے ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورت حال افسوسناک اور ہتک آمیز ہوگی۔

کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔

انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکلف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ اکرام خسروانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور

ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا۔

اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لئے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجالائیے۔

یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا۔ جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی کہ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زریں موقعہ مرحمت فرمایا۔ لیکن ایک زبردست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔

یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اُس نے کہا۔ عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لئے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنالی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ وہ میرے ضمیر کی آواز تھی۔ جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے۔ میں اپنی بھتیجی کو دولہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا۔ بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔

رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورت حال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجئے آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لئے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کرو فکر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا سے کہا۔ دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجئے گا۔ میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔

دولہن کی پاکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی کینروں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے

گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دولہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دولہن کے سر پر رکھ دیا۔ جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفنگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی ایک لمحے کے لئے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی، نسیم عیش کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالہ کی طرح عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کا شاق گزرتا تھا۔ اب کئی کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔

ایک دن منہ لگی ہوئی کنیر کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال چھ مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دین دار پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و گداز اسے اپنی ماں کے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کار سازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونخوار عفرتیوں کا یہ ظلم ٹوٹ کر رہے گا۔

محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لئے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیر جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور راز دارانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زنداں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ

چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لئے وہ انتہائی بے چین ہے اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زنداں کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبریں سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی۔ دوسرے دن علی الصبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی راہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔

کنیز بہت سارے پرچے راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مودب ہو کر ملکہ سے کہا۔

تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرہ رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے۔ اس لئے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔“

کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپالیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے ایک لخت اوچھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستے طے کر رہی تھی کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری میٹھی پر ملکہ نے قدم رکھا۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔“ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا اب اپنا نقاب الٹ دیجئے۔ ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔

ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم واداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک ادھیز عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو چھ مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چھ مہینے کے بعد یہاں کے

دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔

ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لئے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔“

ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا۔ وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر یہاں رہیے۔ آپ کی واپسی ناممکن ہے۔“

یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی۔ لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔

اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔

تہ خانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ ایک دو روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بہن بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع شروع ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اس تہ خانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہ خانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرائیں اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔

ملکہ نے سر ہلا کر اثبات میں جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہ خانے کی مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کرایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔

تہ خانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رہ رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینچ گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا۔“

تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤ! یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی۔ ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چار ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لئے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہیں۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔

غزالہ! ادھر سے آواز آئی ”بڑی آپا! اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھا۔

ادھیڑ عمر کی عورت کے لئے یہ واقعہ ایک معے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اچھبے کے ساتھ دریافت کیا۔

ملکہ! اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے۔ فرط تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کی۔

”یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا ہمارے والد دین کے بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول تو ان کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جاناں میں ان کی چمکیں بھیگی رہتی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے لئے تا اطم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و گداز عشق کی چنگاری پھوٹی پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا۔ فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رقت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھی، قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت درد و کرب کے ساتھ صلوٰۃ و سلام کی نذر پیش کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و بر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور جان نور کی سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض مدعا کر رہے ہیں۔

والد بزرگوار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی

پیشانی میں ابدی سعادتوں کا نور دیکھتا ہوں۔ وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔“

ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی ہوئی چنگاری دہکنے لگی۔ اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد صاحب کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بندھ گیا۔ متوسلین و معتقدین کی ایک بہت بڑی تعداد والد صاحب کے شریک سفر ہو گئی۔

انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بھند ہو گئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوتے والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔

جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں حسرتناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی۔“

چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھیں۔ اس لئے میں والد بزرگوار کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی۔ جہاں کے تصور سے ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی۔ شوق کی امنگوں میں ذوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دیں، آنگن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمن بنا دیا۔ شیشیں جو والد صاحب کی نشست گاہ تھی اسے دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔

ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس روز رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور برپا ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر رہگذر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں

بھی اپنے والد بزرگوار اور اپنی پچھڑی ہوئی بہن کی رہگذر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچانے کے لئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی

آہ دیدہ شوق واکئے ہوئے اپنے باپ کے مقدس قدموں کے غبار کا انتظار کر رہی تھی کہ قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزہ خیز خبر دی۔
خدا تمہیں صبر کی توفیق کرے۔ آہ! یہ خبر دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ کہ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا ہے۔

اس کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہوئے میں غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ دن دھاڑے ہماری آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی۔ اب اپنی دانست میں باپ کی بھی یتیم ہو گئی۔ اس لئے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا۔ چچا بھی اس واقعہ سے اتنے شکستہ خاطر ہو گئے تھے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑ دیا اور سرقند میں بودوباش اختیار کر لی۔

ملکہ نے اپنی درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تک تو مجھے معلوم تھا۔ اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں؟ میری چھوٹی بہن غزالہ اس تہہ خانے میں کیسے پہنچی۔ اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔

اس ادھیڑ عمر کی عورت کے اصرار پر غزالہ نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہانی کا یہ باقی حصہ سنایا۔

حجاز کے سفر میں والد بزرگوار کو یہ معلوم تھا کہ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا۔ وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عام لوگوں سے ہٹ کر دور ایک گوشے میں پسند کرتے تھے کہ ان کی عبادت و ریاضت اور خیال کی یکسوئی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ ایک گھنے جنگل کو عبور کر رہا تھا۔ شب و روز چلتے چلتے کئی دن بیت گئے۔ لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہ آئی پیہم تک و دو کی وجہ سے قافلہ کافی تھک چکا تھا۔ اس لئے تیرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں رک گیا۔

رات آدمی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سوائے چند مہمانوں کے سارا قافلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کنارے کے نزدیک والد بزرگوار نے اپنا خیمہ نصب کرایا تھا۔ وہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ میں ایک گوشہ میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز میرے

کان میں آئی۔ میں فوراً جاگ گئی اور خیمہ کے باہر ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرو یہی وہ خیمہ ہے۔“

ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ چند بھاری بھر کم جسم والے سپاہی خیمے کے اندر گھس آئے اور انہوں نے کمند پھینک کر مجھے اور والد صاحب کو گرفتار کر لیا۔ شکنجوں کی طرح میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیئے گئے اور بالکل بے بس ہو گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پشت سے باندھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو دوڑایا تو میں نے دیکھا کہ والد بزرگوار بھی اسی طرح ایک گھوڑے کی پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ کیا واقع پیش آیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ آج تک بقید حیات ہیں یا وہ بھی خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔

رات بھر پوری قوت رفتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا۔ صبح کو جب پو پھنی تو مجھے کھنی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ دو گھوڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں بائیں دونوں طرف سینے تان کر چل رہے تھے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا تھا۔ لیکن تکلیف کی شدت سے سارا جسم چور چور رہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چل کر چشمے کے کنارے پہنچی اور وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔

ہنوز میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے ایک کنارے بیٹھ گئی۔ فرط تحیر سے مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔

اداس کیوں بیٹھی ہو آج شام تک تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ گی۔ شاہی محل میں پہنچ کر تمہارے دن پلٹ آئیں گے۔“

یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ میری ہچکیوں کے گداز سے چٹانوں کے جگر میں شکاف ہو گیا۔ ایک بھیا تک انجام کے خوف سے میں لرز گئی خدائے کر دگار اور رسول کونین کی جناب میں دل کی خاموش فریاد کے سوا اب میرے لئے نجات کی کوئی سبیل نہیں رہ گئی تھی۔ والد کا غم الگ سوہان روح تھا اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے زمین میں دفن ہونے کو جی چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادموں نے

گھوڑے کی پشت پر مجھے سوار کرایا اور گھڑی کی طرح باندھ دیا۔ جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا کرب سب سے زیادہ جاں گسل تھا۔ گھوڑے کی پشت سے بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی۔ مجھ خود نہیں معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے پھر مجھے طنز کرتے ہوئے کہا!

دیکھ لو یہی وہ شاہی محل ہے جہاں تم نے ملکہ بن کر رہنا ہے۔

پھر زخموں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرہ دینے والے سپاہی نے آواز دی محل کے عقبی دروازے پر یہ گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔
باگ پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔

چند ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلیں اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشہ دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شاہی محل کی کنیریں ہیں۔ جنہیں میری خدمت کے لئے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیروں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں میں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لئے کھڑی ہو گئی۔

جب میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو میں فرط غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تصور کے سہارے میں سنہری جالی کے قریب پہنچ گئی اور ایک بے قرار فریادی کی طرح اپنے آقا کو آواز دی۔ ”چو کھٹ کی کنیر اپنی آبرو کی بھیک مانگتی ہے“ سرکار ”میرے بوڑھے باپ کے آنسوؤں کا بدم رکھ لیجئے۔ ظالموں کے چنگل سے میرے ناموس کو بچائیے۔“

یہ کہتے کہتے شدتِ رعب سے میرے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کنیریں میرے سرہانے کھڑی پنکھا جھل رہی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی ہزار کوشش کی لیکن میں نے یک لخت خاموشی اختیار کر لی تھی۔

رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیریں اسی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارا آج اوج ثریا پر چمکنے والا ہے۔ خراسان کا یہ شہرہ آفاق حسن آج اپنے صحیح قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں خوشی سے چل جانے کا ہے۔ سامانِ آرائش لئے ہوئے یہ مشاطائیں کھڑی ہیں۔ تم انہیں اجازت دو کہ وہ تمہیں دولہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خداداد حسن کا شہرہ سنا ہے اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ بارے آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس لوٹ آیا۔

یہاں پہنچ کر غزالہ آبدیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیروں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لئے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا؟

میں یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے غدا حال ہو گئی۔ مشاطائیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن میں ایک سخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیر دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسے لگی۔

جہاں پناہ جگہ عروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے جھک مار رہی ہو۔ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہے۔

مشاطاؤں نے دبی زبان میں جواب دیا ہم کیا کریں؟ جوڑے کے تھال لئے کب سے خوشامد کر رہی ہیں۔ لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے یہ بات تک کرنے کی روادار نہیں ہیں۔ دولہن بنانے کا تو کیا موقع دیں گی۔ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔

یہ جواب سن کر کنیر نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔

اچھا ٹھہرو۔ ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ کہ نامعلوم اب کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دو کنیروں کا ایک دستہ

لئے چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو لکارتے ہوئے کہا۔ اس لاڈلی کی ذرہ خبر تو لینا۔ ابھی تک یہ سمجھ رہی ہیں کہ آغوش مادر میں ہی ہیں۔ کب سے ان کا تسوا بہہ رہا ہے۔ ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لئے تیار نہیں ہیں جیسے بھی ہو آج ان کی تریاہٹ توڑ دو۔ تجلہ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔“

اس بد بخت کی لکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور چاروں طرف سے بے تحاشہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا اور دوسری طرف مشاطاؤں سے کہا جلدی کرو۔

مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لئے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ ناموس کا خرمن جل جانے کے بعد کوئی آ کر بھی کیا کرے گا۔ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی ایک ایک کر کے اعتماد و امید کے وہ شیرازے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھے زیست کی طہارت و سلامتی کا یہی ایک آخری سہارا تھا۔ سو وہ بھی اب دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارساز یوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں۔“

اسی امید و بیم کی کش مکش میں بھیا تک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد : پ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دولہن کی طرح سجا دیا گیا ہے یہ منظر دیکھ میں شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔“

غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔
یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) اپنی فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے صدقے میری آری ۱

ابھی میری یہ چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی۔ ”ارے غضب ہو گیا“ جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ وہ ماہی بے آب

کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔“

یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح اٹنے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعہ سے اچانک سارے محل میں کہرام مچ گیا۔ تمام کنزیریں اور مشاطائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔

آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقیں کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لوتیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آگینہ شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے معنوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا اٹھے۔

اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشہ قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر میں عرش الہی کے کنکروں کو چھو آئی۔

میری روح کے نہاں خانے میں غیبی چارہ گری کا جو یقین جاگ اٹھا تھا۔ اب اُسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے ہی مجھے تنہائی کا موقع ملا میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیراہن فوراً اتار دیا اور اپنے انہی پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔“

چونکہ میں اپنی زبان پر قفل چڑھا چکی تھی۔ اس لئے میں اس واقعہ کے انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ قہر الہی کی مار بڑی جاں گسل ہے۔

صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنزیریں باتیں کر رہی تھیں ”نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کی زہر نہیں اتری اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طلسم موثر کی طرح جانے وہ بچھو کہاں غائب ہو گیا کہ محل کا ایک ایک چپہ چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔“

”دوسری کنزیر نے بات کاٹتے ہوئے کہا اور سب سے لرزہ خیز خبر تو یہ ہے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر سے جانبر ہونا بہت مشکل ہے۔“

بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ اس لئے ان ایام میں میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح و درود اور تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا اور نہ بجز ایک دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے پر مامور تھیں۔ نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کی لطافت ملکوتی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے کے آسمان سے سفید بالوں کے امنڈتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے لگی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے درپچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔

جلوؤں کے اسی عالم رنگارنگ میں میرے کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشنوار موسم حافظے سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا ایک دن میں اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ محل کی ایک کنیر آئی اور دوزانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے آپ کی تقدس مآب زندگی سے بے حد عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ کے نالہ سحر نے پہاڑوں کے جگر میں شکاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آزر دہ نہ کیجئے ظالم کو اپنے کروت کی سزا مل گئی۔ طبیبوں نے کہا ہے بچھو کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پکھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درماں کا محتاج نہیں رہ گیا تھا۔ اس لئے کنیر کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مدوجزر میں چھ مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔

اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرنی کنیریں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہوا۔ اسی کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت

انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہوئی ہے۔ ورنہ مملکت کے تو سارے طبیعوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔

دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں۔

جواب دیا۔ اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم! لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جوڑی اس محل میں مقید ہے وہ ان کے حجلہ عروسی میں داخل کی جائے گی۔

یہ وحشت ناک خبر سن کر پھر میرے دل کی بے قرار یوں کا موسم پلٹ آیا۔ پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میرے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔

کچھ ہی دنوں کے بعد محل میں اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادیانے کی آواز سے رگ جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔

ایک دن شام کو وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس یہ پیام مرگ لے کر آئی۔ لاڈلی! محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا۔ اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہو گا۔ آج پھر تمہیں دولہن بنانے کے لئے مشاطائیں آرہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیش کش قبول کر لو گی۔ آج جہاں پناہ کے جشن صحت کا دن ہے کوئی نا خوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔

یہ جاں سوز خبر سنا کر وہ بد بخت چلی گئی۔ اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مشاطائیں کنیزوں کا دست لے ہوئے پھر میرے پاس آئیں اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔

پہلے تو انہوں نے نہایت رازدارانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں

بازو تھام لئے اور مجھے اپنے شکنتے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشاطائیں ٹوٹ پڑیں اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکیں بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیریں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہوئیں۔ میں نے ساری آرائش نوچ کر پھینک دی۔

اسی درمیان میں وہ بد بخت کنیر بھی آگئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت ست کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیروں کو حکم دیا۔ یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں ججلہ عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور ججلہ عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا وہ بدنہاد کنیر بھی وہیں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی۔

ابھی جہاں پناہ دربار میں عمائدین سلطنت کی مبارک بادیں قبول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہ وہاں سے اٹھ کر ججلہ عروسی میں تشریف لائیں گے۔

دروازے پر کنیروں کا پہرہ تھا اور میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموس کے مدفن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے ایمان یقین کی دیوار ٹپنے لگی۔ پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹٹمٹاتا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا تو وہ بھی آنندھیوں کی زد پر تھا دل کی امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سرد ہوئی۔ ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرمن جل گیا۔ ہٹو بچو اور مبارک سلامت کے شور سے سارا محل گونج اٹھا۔

اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ وہشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہونے لگا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں رہ گیا تھا۔

اسی عالم سوگ میں ایک بد بخت کنیر نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ادب سے کھڑی ہو جاؤ۔ جہاں پناہ زینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا ہی چاہتے ہیں۔

یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چبھ گئی میں ایک دم تھملا اٹھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شیرازہ بکھرنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں محل کے زیریں حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیر جو غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی۔ میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے کہا۔ اب اپنا خون نہ جلائے مدینے کے آسمانوں سے چارہ گروں کا قافلہ

آ گیا۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔“

جیسے ہی وہ یہ خبر دے کر واپس لوٹی۔ وہی شوخ و عیار کنیزاں و خیزاں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا ”نوراً کمرہ خالی کر دو۔ جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجالاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔“

آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دست غیب کی توانائیوں کا بے حجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کسی آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کا رساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے طیبہ کی نورانی سرزمین کو گیتی کے مظلوموں کی پناہ گاہ ہے کوئی کہیں بھی رہے دل مغموم کا نالہ رایگاں نہیں جاتا۔

اس سیاہ کار اور بد طینت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں یہیں ہوں یہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بہن ملکہ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔“

قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ساتھ ہی رہنے لگیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گہرائی ہوئی اٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت کے عالم میں گہرائی ہوئے دریافت کیا۔ نصیب دشمنان کیا بات ہے جلدی کہو؟“

غزالہ نے کہا ”گہرائی کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپا! میں نے ابھی ابھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے گھوڑوں کی نہ ٹوٹنے والی ایک قطار دیکھی ہے۔ جن پر نہایت جمیل و شکیل نوجوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھ میں تنگی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی اونچی اور کلفیوں سے عجیب طرح کی ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میرے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے“

ملکہ نے کہا۔ خدا کرے تمہارا خواب مبارک و مسعود ثابت ہو۔ ویسے مجھے بھی یقین ہے۔ کہ ظلم کی ٹہنی زیادہ دنوں تک شاداب نہیں رہ سکتی۔ کسی نہ کسی طرف سے قہر الہی کا کوئی

نہ کوئی طوفان ضرور اٹھے گا۔ آواز دو اس رحمت مجسم کو جو روئے زمین پر مظلوموں کا بہترین حامی ہے جس نے طاغوت کے قید خانے سے انسانیت کو آزاد کرایا تھا۔ اس کی تیغ ابرو کا ایک ہلکا سا اشارا آن واحد میں ہماری تمام بیڑیوں کو کاٹ سکتا ہے۔“

غزالہ کو اپنے خواب کی تعبیر کا نہایت شدت سے انتظار تھا۔ ہر روز وہ سر بسجود ہو کر گھنٹوں روتی رہتی تھی کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار سے کیا کہا کرتی ہے۔ پر اتنی بات سب جانتی تھیں کہ اکثر اس کے دوپٹے کا آنچل نم رہا کرتا ہے۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبردست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کو جو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک وقت کی کمی واقع ہو گئی۔ دوسرے دن آنے جانے والی ایک کینر کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے اس لئے عارضی طور پر اس میں تخیف کر دی گئی ہے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر اسے دستور کے مطابق بحال کر دیا جائے گا۔

ایک دن صبح سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی کہ محل میں ایک شور برپا ہوا تہہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں۔ گرجتی ہوئی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ سب پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہ تہہ خانے کے باہر یہ شور کیسا ہے؟ اسی اثنا میں بال نوچتی سرپیشی ایک کینر تہہ خانے میں داخل ہوئی اس نے ہانپتے کانپتے بتایا کہ اچانک شہر پر غنیم نے چڑھائی کر دی ہے۔ دشمن کی فوجیں شہر پناہ کی فصیل توڑ کر قلعہ کے دروازے تک پہنچ گئی ہیں۔ محل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے بدحواسی کے عالم میں جو جدھر جا رہا ہے بھاگ رہا ہے مملکت کا تاج خطرے میں ہے نہیں کہا جاسکتا کہ گھنٹے دو گھنٹے میں کیا انقلاب رونما ہو جائے۔“

اتنا سننا تھا کہ غزالہ اپنی جگہ سے اُچھل پڑی اور ڈوپٹہ اپنی کمر سے کتے ہوئے کہا۔ آپا جان! مجھے اجازت دیجئے ذرا میں ان کلغیوں کو دیکھ لوں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یقین کیجئے یہ زمین کے غارت گروں کا کوئی لشکر نہیں ہے۔ جس کا مقصد لوٹ مار قتل و فساد اور بے گناہ شہریوں کی ایذا رسانی ہو۔ بلکہ یہ مظلوموں کے حامیوں کا ایک دستہ ہے جو کائنات ارضی کی راجدھانی کے لئے بھیجا گیا ہے۔

مبارک ہو اس تہ خانے کی زندانیوں کو! ان کی نجات کا وقت قریب آ گیا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح اڑی اور نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ تہ خانے کے دروازے پر آج کوئی پہرہ نہیں تھا۔ اس لیے آسانی سے وہ باہر نکل گئی۔ پرچہ راستوں سے گزرتے ہوئے البتہ اسے تھوڑی سی دقت پیش آئی۔ لیکن شور و ہنگامہ کے رخ پر چلتے ہوئے وہ محل کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔“

محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف ایک دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنیریں سکتے کی حالت میں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں۔ قلعہ کے باہر شور و فغاں کی ایک قیامت برپا تھی۔ ہمت کر کے یہ آگے بڑھی اور ایک زینے پر جو قلعہ کے دروازے کی برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک برجی کے روشن دان سے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا۔ وہیں چھپ کر یہ کھڑی ہو گئی۔

غنیم کی فوجیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آرہی تھیں۔ یہاں تک کہ بالکل اس کی نگاہوں کی زد پر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی کلفیوں والے نوجوانوں کو دیکھنے کا اشتیاق پورا ہو گیا۔ بالکل خواب کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں وہی تیز رو گھوڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ محویت کے ایک عجیب عالم میں وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ فضا میں ایک بار نعرہ تکبیر کی آواز گونجی اور قلعہ کی فصیلیں ہل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنائی پڑی ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی دیوار ٹوٹ کے گر پڑی ہو۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قلعہ کی حدود میں سنائی دینے لگی۔“

شاید غنیم کی فوج قلعہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اب غزالہ نیچے اتر کر اس برجی میں آ کھڑی ہو گئی جہاں سے محل کا اندرونی حصہ نظر آتا تھا۔

وہ منظر بڑا ہی عبرتناک تھا جبکہ محل کا دروازہ توڑ کر فوج کے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ناگہاں قریب ہی سے ایک گرجدار آواز کان میں گونجی۔

جورو استبداد کے بانی کو گرفتار کر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جائے۔ محل کی مستورات اور کنیروں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

پس دیوار یہ آواز سن کر غزالہ چونک گئی۔ اسے یہ جانی پہچانی آواز معلوم ہو رہی تھی۔

تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز اور قریب سے سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔

بالکل اس کے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آواز تھی۔ غزالہ کے علم و یقین میں چونکہ باپ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ اس لئے اسے سخت اچنبھا تھا۔ اب نہایت بے تابی کے ساتھ وہ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔

اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی بادشاہ کو گرفتار کر کے کشاں کشاں لئے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر فرش پر سجدہ شکر کے لئے جھک گئی۔ اب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ گھڑی دو گھڑی میں زنداں کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔

اب ہمت کر کے وہ نیچے اتر آئی اور ایک جگہ چھپ کر گھڑی ہو گئی۔ امید و بیم کی حالت میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کبھی دل پر یہ خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کبھی یہ اندیشہ دامن گیر ہوتا تھا کہ کہیں ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ خیالات کی اسی کشمکش میں وہ گم سم گھڑی تھی کہ سامنے سے ایک وجیہہ و مقدس چہرہ طلوع ہوا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی پھر جھک گئی۔ پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت میں ڈوب گئی۔

کیا سچ مچ ابا جان.....؟ مگر وہ تو مدت ہوئی ڈاکوؤں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے۔ لیکن ایسی محسوس زندگی کیسے ملی ہے۔ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق کا نتیجہ تو کہا جاسکتا ہے۔ مگر اتنے بڑے حسن اتفاق کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ آواز چہرہ مہرہ اور قد و قامت ہر چیز ہو بہو مل جائے۔

سکتے کی حالت میں کچھ اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے۔ پھر اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی اور دبے پاؤں وہ جانے والے کے پیچھے چل پڑی اچانک اسے یاد آ گیا تھا اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک یا قوت سرخ کی انگوٹھی تھی جسے مرنے سے چند گھنٹے پیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کی انگلی میں پہنائی تھی اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ اکیلے محل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ گھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں وہ اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔

تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یا قوت سرخ کی انگلی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔

اب غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی۔ ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی۔ ”بہی غزالہ؟“ غزالہ کو ارمان آ گیا اور وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا۔

”ابا جان! آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے۔ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟“

باپ نے جذبہ شفقت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔
 بیٹی! میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا۔ پھر تم سے بھی تمہاری المناک سرگزشت سنوں گا۔ لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہیں۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا۔ چین سے نہیں بیٹھوں گا۔

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پالیا ہے۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچا لوں گا۔ مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔
 غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا۔

آپا یہیں ہیں۔ ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں۔ میں بھی انہیں کے ہمراہ تھی ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوں۔

یہ خبر سنا کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اٹھ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا۔

غزالہ! کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے۔ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا۔ ”تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی۔ لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں۔“

تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیر کی راہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امنڈنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی۔ ”آپا جان مبارک ہو! ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں۔ ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھنے آرہے ہیں۔ غزالہ کی بڑسن کر ملکہ ہنسنے لگی۔ لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اچانک چیخ اٹھی۔

ہائے اللہ! یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ کیا سچ مچ میرے ابا آگئے کیا ہماری نجات کا وقت آگیا۔ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے محن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔

ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں۔ اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیریں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے۔ زنجیریں توڑ دی جائیں۔ آج مظلوموں کی دادرسی کا دن ہے۔ آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔

یہ اعلان سننے کے بعد تہہ خانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آٹھل پھیلا کر دعائیں دیں۔ آج ایک مدت کے بعد زنداں کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضاء میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔

دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لئے میدان میں اترا فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔

یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کیا۔

معزز حاضرین! آپ نے دیکھ لیا کہ ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امنڈتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں۔ میری زندگی کا میدان۔ میدان جنگ نہیں تھا۔ لیکن ہاتف غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لئے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھ گدائے بے نواسے وہ کام لیا جو زمانے کے بڑے بڑے سورا انجام دیا کرتے ہیں۔

آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشہ دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرمانروائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی۔ آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگدل نابکار کی شقاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے۔ دلوں کے کتنے آگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے۔ کتنے گھروں سے آہوں کے دھوئیں اٹھے اور کتنی پاک طینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔

زیر دستوں کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالا خر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔

مملکت کے مظلوموں کو صدائے عام ہے۔ اٹھیں اور اس ناہنجار کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھالیں۔

مجمع سے آواز آئی۔ ہمارے زخموں کی تسکین کے لئے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔

یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سپہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل بل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں خشکی میں ڈوب گئی۔

اس مہم سے فارغ ہو کر فاتح سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری

کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلالہ تھیں انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر لئے تھے۔ زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لیں تھیں۔ جن کی لڑکیوں کو جبراً انھوا منگوایا تھا۔ ایک اعلان عام کے ذریعہ سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو جو حق تھا اُسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لئے۔

شام ہوتے ہوتے فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا۔ کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لئے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف و اوراد سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔

غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

بٹی! تمہیں یاد ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑے کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی۔ لیکن میرا ماجرایہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے اور ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر نیچے دھکیل دیا۔

جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑھکنے لگا۔ میری آنکھیں از خود بند ہو گئیں اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب میں نے آنکھ کھول کر جو دیکھا تو ایک گہرے غار کی چٹان پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا۔ میرے جسم کے ٹکڑے اڑ جانا چاہئے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں

نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔

پہاڑی کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکل کر راستہ تلاش کیا لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ آفتاب ڈوب گیا۔ تارے نکل آئے اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں اپنے آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔“

آہ میری زندگی کی کتنی دل کش رات تھی وہ! سارے جہاں میں رگ جاں کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ سب سے کٹ کر میں ایک پیکر لطیف بن گیا تھا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے کتنا حضور قلب تھا اس رات کی نماز میں جیسے تجلیات الہی کی مشعل، پلکوں کے نیچے جل رہی تھی۔ ڈاکو اپنے تئیں مجھے زندگی کی رحمت میں ڈال گئے تھے۔ لیکن وہ میرے وجود کے لئے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔

اسی عالم کیف و شہود میں کئی دن گزر گئے نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا نہ کسی طرح کا اضمحلال محسوس ہوتا تھا۔ اپنے آقا کے احسانات کی بارش میں میں بھیگ بھیگ کر شرابور ہو گیا تھا۔

اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر نہانخانہ قلب میں اس یقین کی شمع جل اٹھی تھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سربہ فلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گروں کے لئے رہگور پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ اسکی رحمت متوجہ ہوگئی تو میرے لئے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔

قافلہ رحمت کے انتظار میں ایک مہینے کی مدت گزر گئی لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا کہ باہر

پہاڑ کی چٹانوں پر آدمیوں کی آواز سنائی پڑی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو دو آدمی کند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ وادی کی سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا۔

بجائے اس کے وہ میرے سلام کا جواب دیتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر بعد جب وہ مرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ ان کے ورودِ مسعود کی غرض و غایت کیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایک ایسا تریاق ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر ہلا ہل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کند کا سرا پکڑے کھڑے ہیں۔

پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سنائی۔ جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شکاف سے انہوں نے تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کر چکنے کے بعد انہوں نے کند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر اس طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے کند گرائی۔ میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کند سے باندھ لیا۔ اس کے بعد رسی کو حرکت دی۔ انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔

اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کا فضل شریک حال نہ ہوا ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر و مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آبادیوں تک لے گئے۔ وہاں چند دن قیام کیا۔

کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب ہی سے گزر رہا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور خوبی نصیب کہ قافلے کی گرد دور سے نظر آئی۔ دوز کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا۔ لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے اقا کی سرکار میں حاصری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا غزالہ کے لئے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجحندی

کا ستارا اوج پر تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فوراً وہاں پہنچو۔“

میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جونہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروغہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً دار الخلافہ جاؤ۔ جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے تمہارا میں انتظار کر رہا ہوں بارگاہ رسالت سے حکم صادر ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم و طغیان حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے۔ تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو۔ فتح تمہارے مقدر میں ہو چکی ہے۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی محل کے ایک تہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دین دار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا۔“

دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل و نیکو شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آیا۔“

امین جواڑی

دارجلنگ میں سونے چاندی اور جواہرات کی تجارت کے لئے عبدالرحمان جوہری کا گھر انہ تھا۔ شہر کے صدر بازار میں سب سے بڑی دوکان اسی فرم کی تھی۔ بیرونی ممالک سے درآمد برآمد کی کلید بھی ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ محمد امین عبدالرحمان چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت و امارت کی چھاؤں میں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ اس لئے انتہائی ناز و نعم کے ساتھ پرورش ہوئی۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اس کی زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ جلد ہی اس کے دوستوں کا ایک حلقہ تیار ہو گیا۔ بری صحبتوں کا اثر اس کی زندگی پر بہت تیزی سے پڑنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ شہر کے اوباشوں آواروں اور بد قماش لوگوں کی بھیڑ ہر وقت اس کے گرد جمع رہنے لگی۔ بہت ساری بری عادتوں کے علاوہ جوئے کی منحوس عادت اس کے گلے کا پھندا بن گئی۔ گھر کی دولت اسی نشانے پر صرف ہوتی رہی۔ افلاس کے سائے اس کی زندگی کے قریب ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ اس مہلک آزار نے اسے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فرمائش پر سینکڑوں بار اس نے غور کیا۔ لیکن غارت گر ساتھیوں کی بزم میں پہنچ کر ہر بار اس کی توجہ ٹوٹ گئی۔

بیٹے کی غلط روی اور ہلاکت خیز روش سے باپ کے تمام ارمانوں کا خون ہو گیا۔ کاروبار کی ساری امنگیں سرد پڑ گئیں۔ گھر کا مستقبل تاریک سے تاریک نظر آنے لگا۔ باپ کا بچھا ہوا دل اس صدمہ جانکاہ کی تاب نہ لا سکا۔ جگر کا خون سوجھنے لگا۔ رگوں کی آگ سرد پڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی نیند چہرے کی شادابی اور جسم کی توانائی زائل ہو گئی۔ اب باپ کی عالی شان مسند پر نہیں بلکہ بستر علالت پر فریش تھا۔ علاج پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیئے گئے۔ لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہ آ سکی۔ جسم کا روگ ہو تو

علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن بیمار دل کا کیا علاج ہو۔ سارے معالجوں نے جواب دے دیا۔

رات ڈھل چکی تھی۔ سارے شہر پر ایک خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ باپ کی حالت آج نہایت غیر تھی۔ منٹ منٹ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ سارے خاندان کے لوگ سر ہانے جمع تھے۔ امین بھی سر جھکائے ایک کنارے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باپ کو ذرا سا آفاقہ ہوا آنکھ کھول کر اس نے اشارے سے امین کو اپنے قریب بلایا اور آبدیدہ ہو کر بمشکل تمام یہ چند الفاظ کہے۔

بیٹا! اب میری زندگی کا چرغ بجھ رہا ہے۔ چند ہی لمحے بعد میں ہمیشہ کے لئے تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ ہزار ارمانوں کے ساتھ خواجہ ہند کے دربار سے میں نے بھیک مانگی تھی۔ یہ حسرت قبر میں مجھے تڑپاتی رہے گی کہ ایک بار بھی تجھے اجیر کی سرکار میں حاضر نہ کر سکا۔ زندگی مہلت دے تو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر سلام ضرور کرنا بیٹا! میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تمہاری خانہ خراب زندگی کا غم لے کر اب میں ہمیشہ کے لئے تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہتے ہوئے ایک ہچکی آئی اور گیتی کا ایک غم نصیب مسافر ابدی نیند سو گیا۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ رات بھر کہرام مچا رہا۔ بیوہ ماں کی درد انگیز آہ وزاری سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔

امین کی حالت قابل رحم تھی۔ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باپ کو کھو کر اس نے کس قدر بھیا تک جرم کیا ہے۔

صبح ہوتے ہوئے شہر کے معززین اور احباب و اقارب جمع ہو گئے۔ عبدالرحمان جوہری کی وفات پر سارا شہر سو گوار تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ جس وقت گھر سے نکالا گیا اس وقت ایک قیامت برپا تھی۔ شدت کرب سے گھر کا ہر شخص بے حال تھا۔ بیوہ ماں تو منٹ منٹ پر بے ہوش ہو رہی تھی۔ امین پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سارا مجمع قبرستان تک ساتھ رہا۔ لحد میں جنازہ اتارتے ہی امین چیخ پڑا۔

مجھے بھی باپ کے ساتھ قبر میں لٹا دو۔ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔“

لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے الگ کیا اور ایک کنارے پر جا کر بیٹھا دیا۔ تدفین کے بعد قبرستان سے سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ امین کو بھی گھر تک پکڑ کر لایا گیا۔ عزیز واقارب نے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ تیسرے دن خاندان کے بڑے بوڑھوں نے امین کو بیٹھا سمجھایا۔

”بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ خدا کی مشیت میں کسی کا چارہ نہیں۔ اب کشتی کے ناخدا تم ہی ہو اپنے باپ کی روح کو تسکین دینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل دو۔ غلط صحبتوں سے توبہ کرو اور ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو۔ اب اپنی بیوہ ماں کے لئے اس دکھ بھری دنیا میں تسکین کا سہارا تمہیں ہو۔“

امین سر جھکائے اپنے بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔

آج پہلی مرتبہ امین جوہری اپنے باپ کے تنہا وارث اور کاروبار کے مالک کی حیثیت سے فرم کی مسند پر بیٹھا تھا۔ اپنے سارے دوستوں اور ساتھیوں سے رشتہ توڑ کر اس نے پوری توجہ کاروبار پر لگا دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں امین جوہری کی نیک نام شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی۔ بیٹے کی سعادت مندی سے ماں کا اترا ہوا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اپنی ذہانت، نیک روی اور شرافت و سنجیدگی کی وجہ سے امین سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گیا۔

کاروبار کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا اور خاندان کا وقار اپنے آخری نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ خوشحالی کے یہی دن تھے۔ بہار کا یہی موسم تھا۔ بہار مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی۔ یہی خورشید اقبال کی عین دوپہر تھی۔ کہ اچانک گردش ایام نے پلٹا کھایا۔ سورج گہٹانے لگا۔ بادخزاں دے پاؤں محن چمن کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر شام و سحر کے چہرے تاریک ہو گئے۔ پھر خاندان کا وقار مجروح ہو گیا۔ پھر گھر کی پھیلی ہوئی رونقیں سمٹنے لگیں۔ قیامت آگئی کہ پھر امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ گیا۔ بھر جوئے کی ریس شروع ہو گئی۔ پھر گھر کا سرمایہ داؤں پر لگنے لگا۔ بینک کا سارا سرمایہ جوئے کی بھیٹ چڑھ گیا۔ ہوس کی آگ بجھانے کیلئے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے۔

دل کھول کر ساہوکاروں نے سودی قرضے دیے اور کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ دوکان اور ساری جائیدادیں غلام پر چڑھ گئیں۔ فرم کا نام ڈوب گیا۔ چند ہی دنوں میں ہرا بھرا چمن فنا کے گھاٹ اتر گیا۔

اب لوگوں کی زبان پر امین جوہری مرچکا تھا اور اس کی جگہ ”امین جواڑی“ نے لے لی تھی۔ لوگ امین جواڑی کے سائے سے بھاگنے لگے۔ جس راستے سے گزرتا اٹلیاں اٹھتیں سارا سرمایہ اور ساری جائیداد لٹا دینے کے بعد ظالم نے گھر کا سامان بھی بیچ ڈالا۔ اب نہ سماج میں کوئی عزت تھی کہ سہارا ملتا اور نہ گھر میں گزر بسر کا کوئی ذریعہ رہ گیا تھا۔ نوبت فاتحے تک پہنچ گئی۔ گھر کی جہی ہوئی محفل اکٹڑ گئی۔ سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے بوڑھی ماں کے اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ امین جواڑی دن بھر شہر کی خاک چھانتا۔ اسی لالچ میں کافی کافی دیر تک اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا رہتا کہ داؤ جیتنے والوں سے دو چار پیسے مل جائیں اور پیٹ کی آگ بجھے۔ بوڑھی ماں، مزدوری کر کے بس شام کو کھانا پکاتی۔ دن کا وقت فاقہ میں گزرتا۔ قسمت کی برکتگی اور وقت کی آشفستہ حالی پر روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئیں تھیں۔ امین اب وہ درد مند امین نہ تھا جو باپ کی جدائی کی تاب نہ لاسکا تھا۔ اب سیہ کار زندگی اور لعنت زدہ ماحول نے اس کے دل کی لطافتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اب دل کی جگہ اس کے سینے میں پتھر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اندر زندگی کا کوئی گزارہ نہیں تھا۔ ماں شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تو تسکین دینے کی بجائے ظالم جھڑک دیا کرتا تھا۔ ماں کی مامتا بھی عجیب دیوانی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی امین اس کے کلیجے کے ٹھنڈک تھا۔ جب تک وہ اسے کھلانہ لیتی خود نہ کھاتی۔ جب تک اسے دیکھ نہ لیتی رات کو سونا حرام تھا۔

رجب کا مہینہ آرہا تھا۔ خواجہ کے عرس کا موسم آتے ہی ملک کے کونے کونے میں ہنگامہ عقیدت کا ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ شوق محبت اور جوش جنوں کے ہزاروں کارواں اجمیر کی طرف چلنے کے لئے تیار ہو رہے تھے۔

امسال دارجلنگ سے بھی خواجہ کے دیوانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہو رہا تھا ہر محلے میں اجمیر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ خواجہ کے پرشوق تذکرے سے مسلمانوں کی آبادیاں

گونج اٹھی تھیں۔

امین کی والدہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو تڑپ گئی۔ یکا یک شوق کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ بہت دنوں کا سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ غریبی تنگ دستی اور زندگی کی بربادیوں نے خواجہ کی یاد کو بھی رقت انگیز بنا دیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے دل ہی میں خواجہ کو آواز دی۔

غریب نواز! ہم غریبوں کو بھی اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے۔ وقت نے ہمیں محتاج بنا دیا۔ پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ خوشحالی کے زمانے میں آپ کو بھول جانے کی ہمیں کافی سزا مل گئی۔ حضور ہماری خطا معاف کر دی جائے۔

میری سرکار! ایک بار اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے۔ مرنے والے کی روح کو تسکین مل جائے گی۔ یہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری بندھ گئی۔ اسی عالم میں امین بھی کہیں سے آ گیا۔ آج اس کی حالت بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بیٹھ گیا۔

ماں! یہاں رو کر اپنے قیمتی آنسو ضائع مت کرو۔ چلو اجمیر چلیں، وہیں خواجہ ہند کی چوکھٹ پر جی ٹھول کر رو دیں گے۔ ہماری بربادیوں کا ماتم یہاں کون دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ کے دربار میں زندگی کے ٹوٹے ہوئے آگینے ایک لمحہ میں جڑ جاتے ہیں۔ چلو وہیں چلیں۔ مرحوم باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے اور خواجہ کو ہمارے حال زار پر ترس آ گیا تو عجب نہیں کہ ہمارے گئے ہوئے دن واپس پلٹ آئیں۔

تیار ہو جاؤ: قافلہ جا رہا ہے۔“

آج بیٹے کا بدلہ ہوا رنگ دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا۔ آنکھوں میں امید کے آنسو چھلکنے لگے پر شوق امنگوں کے عالم میں اٹھی اور گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن بیچ کر زادِ سفر کے لئے دس روپے کا انتظام کیا۔ ماں بیٹا دونوں گھر سے نکل پڑے۔ اور قافلے میں شامل ہو گئے۔

جیسے جیسے اجمیر قریب آتا جا رہا تھا۔ امیدوں کی لگن اور شوق کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اب اجمیر تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ قافلے والے اپنا اپنا سامان درست کرنے لگے۔ امین اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس سامان ہی کیا تھا جسے وہ درست کرتے۔ البتہ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ دارجلنگ کے دو آشفہ حال مسافروں کا بھی

سب سے قیمتی سامان تھا جسے وہ خواجہ کے حضور پیش کرنے کے لئے اپنے جگر کی جلتی ہوئی رگوں سے جمع کر رہے تھے۔

جلوہ جاناں کی طرح پلک جھپکتے اجمیر سامنے آ گیا۔ خدام آستانہ زائرین کا خیر مقدم کرنے کے لئے ہر طرف کھڑے تھے۔ عاشقانِ خواجہ کا گروہ اپنے اپنے وکیل کے ہمراہ شیشن سے باہر نکل آیا۔

جب گیٹ سے گزرنے لگے تو ایک خادم نے امین سے دریافت کیا۔ تمہارے وکیل کا کیا نام ہے؟

بوڑھی ماں نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ غریب نواز! "خواجہ کا دیوانہ سمجھ کر خادم نے دوسری طرف کا رخ کیا۔

یہاں سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدس کی طرف پیدل چلنے والے قافلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بلند دروازہ جوں ہی نظر آیا عظمتِ خدا داد کی دھمک سے پلکیں جھک گئیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور جوشِ مسرت کی امید میں چوکھٹ پر جم گئیں۔

مستوتوں اور خوش بختیوں کے راجہ! سنا ہے کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے غم نصیبوں کو یہاں پناہ ملتی ہے۔ کروڑوں خانہ خراب آپ کے دربار سے شاد و آباد واپس لوٹتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی نظر نہ آنے والی چارہ گری کا ایک جلوہ دکھا دیجئے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے خواجہ ہماری بھی قسمت کا ٹوٹا ہوا آئینہ جوڑ دیجئے۔

سرکار: ایک بیوہ کی فریاد سن لو! ایک یتیم کی کشتی کو منجھدار سے نکال دو۔ تمہارا بخشا ہوا پھول مرجھا گیا ہے۔ اسے ہرا بھرا کر دو۔

خدام آستانہ سے ماں بیٹوں کا بلک بلک کر رونا دیکھا نہ گیا۔ انہیں اندر لے گئے اور مزار کی پاکتی کھڑا کر کے سروں پر چادر ڈال دی۔ دامنِ رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جانے کے بعد جگر کی آگ بجھ گئی۔ آنسوؤں کا سیلاب ختم گیا اور انجانے طور پر دل کو سکون مل گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو روحانی فراغت اور زندگی کا سرور چہرے سے آشکارا تھا۔

بھوک نے ستایا تو لنگر خانے کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ بھیک لی، آسودہ ہوئے اور پھر چوکھٹ پر آ کر جم گئے۔ جب تک اجیر میں رہے ماں بیٹے کا یہی معمول رہا۔

آج رجب کی نو تاریخ تھی۔ میلہ ٹوٹ رہا تھا۔ قافلے روانہ ہو رہے تھے۔ عشاق کے لئے رخصت کی گھڑی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عقیدت مندوں کی گریہ و زاری سے ایک شور برپا تھا۔ ماں بیٹا بھی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دربار خواجہ سے رخصت ہوئے۔

بلند دروازے سے باہر نکل کر بیٹے نے ماں سے کہا خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ واپس ہو رہے ہیں۔ سنا تھا کہ یہاں ایک لمحہ میں تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے ماں نے جواب دیا۔

بیٹا "جو کچھ تم نے سنا تھا غلط نہیں ہے۔ یہاں قسمت کی گرہ کھل جاتی ہے۔ پر ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو خبر نہیں ہو پاتی۔ بیٹا! عارفوں اور اہل نظر کی یہ دنیا دیوانی نہیں ہے۔ جو ہر سال بھکاریوں کی قطار میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔

ماں بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور بیٹا اس خیال میں سرگرداں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی "امین جواڑی" پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر سڑک کے کنارے بیٹا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ امین نے ایک سائل سمجھ کر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پھر آواز دی۔ اس دفعہ آواز کے لہجے سے بے نیازی کا شکوہ ٹپک رہا تھا۔

ماں چلتے چلتے رک گئی۔ امین بھی ٹھہر گیا۔ دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فقیر نے تیور بدل کر کہا۔ "لاتیرے پاس جو کچھ ہے خواجہ کے نام پر رکھ دے۔" امین کو کچھ پس و پیش ہوا۔ لیکن ماں نے بغیر کسی تامل کے پانچ روپے نکال کر رکھ دیے۔ عقیدتیں تیز ہو گئیں۔ دوزانو بیٹھ کر بوڑھی ماں نے پلکوں سے چوکھٹ کا بوسہ لیا ایک رقت انگیز بے خودی کے عالم میں امین کو آواز دی۔

بیٹا! یہی وہ چوکھٹ ہے جہاں کھڑے ہو کر تیرے مرحوم باپ نے بھیک کے طور پر تجھے حاصل کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے ساتھ تیری ہستی کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ ماں کی

بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امین نے گھٹنا ٹیک دیا اور نہایت ادب کے ساتھ چوکھٹ کا بوسہ لیا۔

اس کے بعد مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے ماں بیٹا احاطہ نور میں داخل ہوئے۔ اب خواجہ کونین کا وہ حسین روضہ نظر کے سامنے تھا۔ جس کی زیبائی پر سارا ہندوستان شیفٹ ہے۔

ہر طرف چھما چھم نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر آنکھ پر خم تھی۔ ہر دل پیکر فریاد تھا۔ ہر شخص شراب عرفاں کے کیف میں سرشار نظر آ رہا تھا۔

شاہانہ کروفر اور شوکتِ جمال دیکھ کر دونوں حیرانی کے عالم میں گم تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ آنکھوں کا چشمہ سیال پھوٹ پڑا۔ آلام کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اُٹھی۔ اس طرح ٹوٹ کے اس نے فریاد کی کہ اس کی آہ وزاری سے لوگوں کے دل دھل گئے۔

قیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی! گردشِ ایام کے ستائے ہوئے فریادی ایک نگاہ کرم کے طلب گار ہیں۔ یہی اس غریب و مسکین قافلے کی کل کائنات تھی۔ فقیر نے اپنی جھولی سے کوئی چیز نکال کر ماں کے آنچل میں ڈالتے ہوئے کہا۔

”اے چھپا کر رکھ لے“ خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن واپس لوٹ آئیں گے جاسید مہر چل جا۔

پر امید امنگوں کے عالم میں فقیر کے پاس سے ماں بیٹے اٹھے اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے۔ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔

اسٹیشن پر پہنچ کر امین نے نہایت بے چینی کے ساتھ دریافت کیا۔ ذرا دیکھیں ماں! فقیر نے کیا دیا ہے؟ دیکھا تو آنچل میں ایک گول چکنا پتھر پڑا ہوا تھا۔ امین کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ جھنجھلا کر ماں سے کہا۔ ”وہ پانچ روپے بھی پانی میں گئے۔“

اب راستہ کتنا بھی مشکل ہے افسوس! بڑی امید لے کر آئے تھے۔ اور نہایت شکستہ خاطر ہو کر یہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ دارجلنگ میں تو ایک ہی وقت کا فاقہ تھا۔ اب تو راستے بھر فاقہ کرنا ہوگا۔ کیا خبر تھی کہ فقیری کا لبادہ اوڑھ کر یہاں راہزن بھی راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔

جھنجھلاہٹ میں ماں کے ہاتھ سے یہ پتھر لے کر پھینکتا ہی چاہتا تھا کہ ماں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اسے ساتھ رکھنے سے تیرا کیا بگڑتا ہے۔ سونے کی ڈلی نہ سہی خواجہ کے شہر کی یادگار تو ہے۔ گھر بڑی رہے گی۔“

خدا خدا کر کے کسی طرح یہ قافلہ دارجلنگ پہنچ گیا۔ اس بار بھی راستے میں کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی۔ کئی دن کے فاقے سے ماں بیٹے نڈھال تھے۔ گھر پہنچتے ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا۔

دوسرے دن اپنی اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا۔ ساری محفلیں ویران ہو گئیں تھیں۔ جوئے کے تمام مرکزوں پر خاک اڑ رہی تھی۔ امین کو اس نئی صورت حال سے حیرت ہوئی۔

دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محکمہ انسداد جرائم کے ایک ہوشیار دستے نے سارے مراکز پر چھاپہ مار کر سب کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے حق میں بھی اس نے خطرہ محسوس کیا اور فوراً گھر واپس لوٹ آیا۔ آج خلاف معمول دن کے وقت بیٹے کو دیکھ کر ماں کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے دل نے اعتراف کر لیا۔ کہ یہ خواجہ غریب نواز کی پہلی برکت ہے۔

دن کے وقت امین اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر کچھ کھاپی لیا کرتا تھا۔ اب وہ سہارا بھی اجڑ چکا تھا۔ آج سارا دن فاقے سے گزر گیا۔ جھنجھلاہٹ میں بات بات پر ماں سے لڑ پڑتا تھا۔ وہ پانچ روپے اس کے ذہن سے نہیں اتر رہے تھے۔ غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اس چکنے پتھر پر پڑ گئی۔ جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی۔ عالم غیظ میں اٹھا اور پتھر کو اپنے گھر کی دیوار پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا لیکن زندگی کا ٹوٹا ہوا آگینہ جڑ گیا۔ دیکھا تو بیش قیمت جوہرات کے ہزاروں ٹکڑے محن میں بکھرے ہوئے تھے۔ امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔

خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم سے پھر خوشی کے دن پلٹ آئے۔ ”امین جواڑی“ پھر امین جوہری ہو گیا۔ اب امین جوہری کسی مقامی فرم کا نہیں بلکہ جوہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ خواجہ تیرے ڈھنگ نرالے۔



لحد کی منزل

فیروز مند یوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔

یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لئے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں۔ نظر پڑی اور بکھر گئی۔ لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی۔ کہ نظر پڑتے ہی دل میں متراد ہو گئی۔ بجلی چمکی خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چہار دیواری میں جس رسول عربی کا نام لینا گیتی کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے نہاں خانے میں بن چکا تھا۔ عشق اور وہ بھی رسول مجتبیٰ کا عشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کش مکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اس محفل نور میں چلے۔ دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو جلوۂ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آلام کا محشر پیا ہو جائے گا، آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کہ رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو غلبہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دُزدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ آئے کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پہ بیٹھ گئے اور دور ہی سے جلوۂ خدا نما کا نظارہ کر لیا۔

اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قرین عشق کی چنگاری سلگتی رہی محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ چہرے کا رنگ اتر گیا جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے۔ کہ دل کی

بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جاں گسل ضبط نے بیمار ڈال دیا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا۔ وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے عشق کے آزار کا کیا علاج ہے کس مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟

ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کاٹا ہو گیا مامتا کی ماری ہوئی ماں بالیں پکڑ کے روتی رہتی باپ پاگلوں کی طرح سر ٹپکتا خاندان کے افراد کف افسوس ملتے لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا ناتوانی اور ضعف کی شدت سے آواز مدہم پڑ گئی زبان کی گویائی جواب دینے لگی۔ کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس۔ آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی آنکھیں پتھرا نے لگیں۔ جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا۔

”میرے لعل! کچھ کہنا چاہتے ہو۔“

زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے۔ ”آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔“

باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا میرے جگر کی ٹھنڈک! یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لئے تیار ہوں تم بے خطرہ اپنی خواہش کا اظہار کرو۔

وعدہ کرتا ہوں کہ بے دریغ اسے پوری کروں گا۔

بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا۔

بابا جان! برانہ مانیں۔ چند برسوں سے میں محمد عربی کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا ان کی موہنی صورت ان کا پر نور چہرہ اور ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے

بستر علالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھلک کے لئے ترس گیا ہوں اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے تاباں کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔

زحمت نہ ہو تو ذرا انھیں خبر کر دیجئے کاکل ورخ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بالیں پر کھڑے ہو کر اسے اخروی نجات کا مژدہ سنا دیں۔

بیٹے کی یہ آرزوئے شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تھما اٹھا لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پالیا۔ اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس اب کسی طرح کی فہمائش کا بھی موقعہ نہیں تھا چارونا چار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لئے دل کو راضی کرنا پڑا۔

لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے لخت جگر اگرچہ میرے لئے یہ بات سخت ناگواری کی ہے۔ لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لئے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے اسرائیلی سماج کا مجرم کہا جائے گا۔ لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لئے یہ ننگ بھی گوارا ہے۔

بادل نخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا قدم اٹھ نہیں رہے تھے اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں کوئی انہیں خبر کر دو۔

چند ہی لمحے کے بعد سرکار رسالت سامنے جلوہ گر تھے ارشاد فرمایا ”تمہیں کیا کہنا ہے۔“

دل کا شور فتح کر لئے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد مل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا ”میرا اکلوتا بیٹا عین شباب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تمہاری عقیدت و محبت کا سحر حلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالیں پر کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا دو۔

یہ سنتے ہی سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لئے آسمانوں میں ہنگامہ شوق برپا

ہے۔

انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئیں تھیں باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی۔

نور عین؟ آنکھیں کھولو! تمہارے مرکز عقیدت آگئے یہ دیکھو! سر بالیں محمد عربی کھڑے ہیں۔

اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی بیمار نے آنکھیں کھول دیں نظر کے سامنے عرش کی قدیل کا نور چمک رہا تھا نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا۔

”سرکار! دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لئے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جارہا ہوں کاکل درخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے خدائے لاشریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے اس تہہ دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟

سرکار نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا ”زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔“

نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی فرزند سعید! ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی ہے کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لئے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔“

نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔

سرکار! قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی مدہم آواز فضا میں گونجی اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کر لیں۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔

نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا۔

حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے اسلام کی مقدس امانت ہے اب یہ میرے گھر کی بجائے

آپ کے دررحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔
 باپ کی درخواست قبول فرمائی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عشق
 و ایمان کا یہ گنج گرانمایہ اپنے دوش پر اٹھالو۔ عروسِ نو بہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں
 سے گزرے گا۔

مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لئے
 آس پاس کی ساری آبادیاں سٹ آئیں آخری دیدار کے لئے چہرے سے جونہی کفن ہٹایا
 گیا آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی عارضِ تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ہونٹوں پر تبسم
 رقصاں تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا۔ کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے
 ہوئے تھا۔

عاشق کا جنازہ تھابڑی دھوم سے اٹھا کثرتِ اژدہام سے مدینے کی گلیوں میں تل
 رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کف پا کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازہ
 کے ہمراہ بچوں کے بل چل رہے تھے اس ادائے رحمت کی کہنہ معلوم کرنے کے لئے لوگ
 تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا۔
 ارشاد فرمایا۔ آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک
 ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔

جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرشِ خاک پر رکھ دیا گیا لحد میں اتارنے کے لئے سرکار
 خود اندر تشریف لے گئے داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی
 اپنے دستِ کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد
 سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔
 تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا۔

حضور! چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی
 بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔

حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا۔

اس عاشقِ جواں سال نے دم واپس مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر
 دخولِ جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پاکر۔

حوران خلد کا بہت بڑا اثر ہام اس کی لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا تھا جوں ہی اسے لحد میں اتارا گیا چہرے کی بلائیں لینے کے لئے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑیں ہجوم شوق کا امنڈتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضہ تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پہ ٹپک گئے اب اس کی خواب گاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔

بندہ نوازی کی یہ رودادِ جاں فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں ہجوم انھیں عشقِ مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصبِ عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ حیات میں ایک سجدہ بندگی کا بھی اندارج نہیں تھا۔

سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ ”جسے پیا چاہے وہی سہاگن“



نور کا ساگر

عرب کی دھوپ تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت۔ ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھنٹی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔

سردار قافلہ نے کہا ”اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگو ہماری بخشی ہوئی زندگی کی امید گاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو۔ شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔

اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔

خوش نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔

سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے۔ چلو اس کی اعانت کریں۔

باوصبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔

ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے۔

اے رحمت و نور والے! ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں۔ تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہماری حلق تر کر دو۔“

سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نژاد غلام اپنی ناقہ پر پانی کا ایک مشک لئے جا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ چل تجھے پیغمبر آخرا زمان بلا رہے ہیں۔

فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔

سرکار کا نام نامی سنتے ہی وہ ٹھٹھک کر رک گیا۔ اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پاپیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔

جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرہ انور پر پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا تھا۔

حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تیرا پانی کم نہیں ہوگا۔ ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے۔ خدا تجھے روشن کرے۔“

اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لئے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا۔ اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار نے حکم دیا اب مشک کا منہ بند کر لے۔

مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشک پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔

شیفتہ جہاں بہیلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ عشق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔

انہوں نے ہمائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔

حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جوں ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی

تھی۔ اس کا استعجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے مشک بھی اسی کا ہے۔ لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا۔

جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔

سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا۔

ہائے افسوس! آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہنچانتے آپ کا غلام تو میں ہی ہوں اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضب ناک ہو کر جواب دیا۔

مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی۔ میرا غلام حبشی نژاد تھا۔ اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟

اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا۔

یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی! تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔

آج نور کے اس ساگر میں نہا کر آ رہا ہوں۔ پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انھوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیئے تھے۔ اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہ چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔

آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔



قندیل عرش کا نور

”اُف یہ کالی گھٹاؤں میں چھپی ہوئی رات۔ ہر طرف خوفناک سیاہی اور ہولناک سناٹا! مگر اس وحشت ناک ویرانے میں انسانوں کی یہ آوازیں کہاں سے آرہی ہیں۔“
ایک مسافر نے آگے بڑھ کر پکارا۔

اے آدم کے فرزندو! تم آبادیاں چھوڑ کر یہاں کہاں آ گئے!
کسی نے جواب دیا ”خود نہیں آئے“ قسمت برگشتہ لے آئی!
مگر اس گھنی تاریکی میں تمہیں ٹھوکر لگ جائے گی، تمہارے بچوں کو دردے اٹھالے جائیں گے۔ کیا تمہیں اپنی سلامتی کی بھی فکر نہیں؟ مسافر نے کہا۔
ٹھوکر تو لگ ہی چکی ہے، کیا دوبارہ ٹھوکر لگے گی؟ ٹھوکر نہ لگی ہوتی تو ہمارا قافلہ یہاں سرکیوں ٹکراتا؟ سلامتی کی فکر مت پوچھو! بڑی غمناک کہانی ہے یہ“ سردار قافلہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا کھل کر کہو۔ تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری گھائل زندگی کا کوئی بہت گہرا راز ہے جسے تم چھپا رہے ہو، مسافر نے زور دیتے ہوئے پوچھا۔

ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو! لیکن تم ہماری نامرادیوں کی غمگین داستان سن کر کیا کرو گے اس وادی میں سینکڑوں برس گزر گئے، ہمیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ تم جیسے بہت سے درد مند مسافر ادھر سے گزرے اور کچھ دیر کے لئے ہمارے پاس ٹھہر گے۔ تمہاری ہی طرح انہوں نے بھی ہمیں اس زندان بلا سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن جب ہم نے اپنی مصیبتوں کا دردناک آزار ان سے بیان کیا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہارے زخم کا علاج انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ انتظار کرو شاید آسمان سے تمہارے لئے کوئی مرہم شفا اترے۔

اس لئے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ضد نہ کرو۔ ہماری تھکا دینے والی حسرت انگیز کہانی سن کر تم بھی وہی کرو گئے جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ تم ایک مسافر ہو جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ تمہاری ہمدردیوں کا بہت بہت شکریہ“ سردار قافلہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔

اب تو اور بھی تمہاری باتوں نے مجھے سراپا شوق بنا دیا۔ اب میں تمہاری داستان غم سے بغیر یہاں سے ٹل نہیں سکتا یقین کرو! میں ان راہگیروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری پریم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے۔ میں نے خود بھی درد و الم کے گہوارے میں پرورش پائی ہے۔ اس لئے تمہارے دل کی دھڑکنوں کا راز مجھ پر چھپ نہیں سکتا اب تمہیں اپنا قصہ غم سنانا ہی ہوگا“ مسافر نے پیار بھرے انداز میں جواب دیا۔

”فطرتِ انسانی میں کتنی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ٹھیک یہی نقشہ تھا ان راہگیروں کا بھی جو تمہارے لفظوں میں ہماری پریم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے۔ وہ بھی ہمارا افسانہ ابتلا سننے کے لئے اسی طرح بیتاب تھے جس طرح تم ہو۔ اظہارِ شوق کے مرحلے میں تم اور وہ بالکل یکساں نظر آتے ہو۔ اس کے بعد کی منزل میں تم ان سے مختلف ہو جاؤ تو میں نہیں کہہ سکتا۔

بہر حال تم ہماری کہانی سننے پر بضد ہو تو سنو! لیکن اس امید میں نہیں کہ ہماری مشکلات کی گرہ کھول دو گے بلکہ صرف اس لئے کہ ہمارے قافلہ سے تم دل شکستہ ہو کے نہ جاؤ۔“ اتنی گفتگو کے بعد سردار قافلہ نے ایک لمبی سانس لی اور داستان سنانا شروع کی۔

”دیکھو! بہت دنوں کی بات ہے۔ نہیں میں نے غلط کہا“ بلکہ اس وقت کی جب روئے زمین پر انسانوں کی پرچھائیں بھی نہیں پڑی تھیں۔ اس وقت کائنات کے خدا نے آسمان پر ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا۔

ایک عرصہ ناپیدا کنار تھا جس میں ایک طرف بلند قامت پہاڑوں کے لنگر کھڑے تھے دوسری طرف زمین کا گول کرہ رکھا ہوا تھا اور ٹھیک پائے گاہ شاہی کے سامنے انسانی روحوں کی بھیڑ جمع تھی۔ جب ساری خلقت آموخود ہوئی تو خدائے لاشریک نے اپنے سراپردہ جلال و جبروت سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا۔ اس کی تابش جمال کا کیا حال بیان کروں کہ کسی میں نظر ملانے کی تاب نہ تھی۔ بس نگاہوں پر ایک تیز تر شعاع کی چوٹ پڑی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔

خدائے فلک نے تمام حاضرین دربار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ”دیکھو! یہ میرے گنجینہ قدرت کی ایک نہایت قیمتی امانت ہے جو اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکتا ہو آگے بڑھے یہ ہیرا میں اس کے حوالہ کر دوں گا۔ لیکن شرط کے ساتھ کہ ایک لمبی مدت کے بعد پھر ایک دربار عام منعقد کروں گا۔ اس دن یہ امانت بالکل اسی حالت میں واپس کرنا ہوگی اور یہ سن لو کہ ادائے حق میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو جہاں میری بارگاہ عدل میں محنت وفا کا شاندار صلہ ہے۔ وہاں سرکشی کی عبرتناک سزا بھی ہے۔

خدائے برتر کا یہ اعلان سن کر ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں عام طور پر خیال تھا کہ آسمان کا چوڑا چکلا سینہ یہ بار امانت ضرور قبول کرے گا۔ لیکن حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آسمان پر یہ امانت پیش کی گئی تو دہشت سے اسے زلزلہ آ گیا۔ ہیرے کے لئے پتھر کا جگر مشہور ہے۔ آسمان کے انکار کے بعد اب خطاب شاہی پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔

کرۂ خاک کے پہرہ دارو! کہو تو تمہارا سینہ چاک کر کے یہ امانت رکھ دوں؟ یہ سننا تھا کہ پہاڑوں کی مغرور پیشانی پر پسینے آگئے گھٹنے ٹیک کر عرض کیا ”۔ ہماری چوٹیوں کو رفعت کا تاج بچھنے والے مالک! تیری امانت کا جلال ہم سے نہیں اٹھ سکتا۔ ہمارا سینہ پھٹ جائے گا ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔“

اب زمین کی باری تھی۔ فرمان سلطانی اس سے یوں مخاطب ہوا:

”اے آغوشِ فطرت! تیرے دامن پر شاخ گل سے کوئی ننھا سادانہ بھی گر جاتا ہے تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتی۔ تیری ہی دیانت و وفا پر نباتات کی انجمن آباد ہے۔ میرے خزانہ کرم کا یہ ہیرا تو ہی اپنے دل میں رکھ لے نا؟“

یہ سن کر زمین نے اپنا خاک آلود چہرہ ایوان شاہی کی دہلیز پر رکھ دیا اور لرزتے ہوئے کہا: ”اے جبروت والے بادشاہ! تو خوب جانتا ہے کہ تیری چھوٹی بڑی کائنات کے قدموں سے پامال ہونے والی میں ایک عاجز و کمترین مخلوق ہوں۔ بھلا میرے اندر کہاں اتنا حوصلہ کہ تیری پر جلال امانت کا بار اٹھا سکوں؟“

اس بھرے دربار میں سب کے چہرے کا رنگ فق تھا۔ سب کی نظر اپنی ہی نجات و سلامتی پر تھی۔ لیکن انسان کھڑا سوچتا رہا کہ ایک بندہ وفا شعار کو اس بحث سے کیا سروکار کہ حق امانت ادا کرنے کی اہلیت اس میں ہے یا نہیں؟ اسے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی

رضا کیا ہے؟

مشیت یہ امانت کسی کے حوالہ کرنا ہی چاہتی ہے تو اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کیا جائے؟ جو امانت دے رہا ہے وہی اہلیت بھی بخش دے گا اور بالفرض اگر دوست کی خاطر ہم ہلاک بھی ہو گئے تو اس میں ذریاں کیا ہے؟ یہ سوچ کر انسان آگے بڑھا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر ہیرے کو اٹھالیا۔ اس مجمع کائنات میں سب کے سب حیرت سے انسان کا منہ نکلتے رہ گئے۔ اس کی بے محابہ جرأت پر بڑے بڑوں کا کلیجہ دہل گیا۔ خود شاہ فلک نے انسان کی جسارت سے بے خط دیکھ کر کہہ دیا۔ غضب کا ظالم ہے انجام سے بے خبر انسان بھی۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

اس کے بعد دنیا میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی۔ ہر عہد میں کچھ خاص قسم کے انسان شہنشاہ کی طرف سے دنیا میں آتے رہے۔ جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ہیرے کی حفاظت کی۔ وہ تمام نسل انسانی کو اپنی زندگی میں ہدایت کرتے رہے کہ خبردار وہ ہیرا ضائع نہ ہونے پائے ورنہ آئندہ جو دربار منعقد ہونے والا ہے اس میں انسانوں کی بڑی ہی رسوائی ہوگی۔

میرے مہربان مسافر! آج ہزاروں سال کا عرصہ گزرا کہ اس ریگستانی ملک میں شام کا ایک بوڑھا معمار اپنے شیر خوار بچے اور اپنی وفادار بیوی کو لے کر آیا اور ایک بے آب و گیاه پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دم رخصت اس کی یہ مناجات بڑی ہی رقت انگیز تھی:-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

”پروردگار! تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیاریگ زار میں میں نے

اپنی نسل کو آباد کیا ہے اب تو ہی ان کا نگہبان ہے)

دنیا سے رحلت کرتے وقت مقدس باپ نے وہ آسمانی ہیرا اپنے اسی ارجمند بیٹے کے

حوالہ کر دیا۔ یہ ہمارا قافلہ جو تم دیکھ رہے ہو اسی کی نسل سے آباد ہے۔ جس وقت ہمارا

مورث اعلیٰ دنیائے فانی سے رخصت ہو رہا تھا۔ اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے

قریب بلایا جب سب آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تو اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا نکالا اور ہچکیاں لیتے ہوئے قوم کے سرداروں سے کہا۔

دیکھو! موت میرے سرہانے کھڑی ہے اور عنقریب وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی ایک دیوار حائل کر دے گی۔ اس حالت میں جب کہ میری آنکھیں پتھر اری ہیں اور ہمیشہ کے لئے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، نسل انسانی کے آباؤ اجداد سے جو آسمانی ہیرا ہاتھوں ہاتھ مجھ تک پہنچا ہے میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم دل کی تختیوں پر لکھ لو۔ سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔

دیکھو! یہ دنیا اب اپنے آخری مرحلہ سے گزر رہی ہے عنقریب یہ اسی نقطہ پر پہنچنے والی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن تم سے پہلے مجھ سے انسانوں کے لاکھوں کارواں وہاں پہنچ چکے ہیں۔

تم چھوٹے بڑے سب گواہ رہنا کہ تم تک یہ امانت پہنچا کر میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب نسل انسانی کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہو گا۔ قدم قدم پر رہزنیوں کی بھیڑ تمہاری تاک میں ہو گی۔ خدائے قدیر تمہیں سفر کی ارجحندی اور راہ کی سلامتی نصیب کرے۔

اتنا کہہ کر ہمارے قبیلہ کے بوڑھے باپ نے ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہمیں یتیم بنا گیا۔

یہاں پہنچ کر سردار قافلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز رقت انگیز ہو گئی تھوڑے وقفہ کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے پھر کہا۔

میرے غمگسار مسافر! اس حادثہ کے بعد کئی سو برس تک ہمارے قافلہ میں ہاتھوں ہاتھ وہ ہیرا منتقل ہوتا رہا اور ہم خوشی خوشی زندگی کی منزلیں طے کرتے رہے، لیکن ایک دن ہم اسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ ہیرا گر پڑا۔ اندھیری رات تھی ہر چند ہم نے تلاش کیا وہ نہ ملا۔

اس وقت سے لے کر آج تک ہم اسی ہیرے کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے ہیں اندھیری رات میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہمارا سارا قافلہ گھائل ہو چکا ہے کتنی مرتبہ ہم سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحر نہ ہوئی۔

آہ! اب کس منہ سے ہم آسمانی دربار کا رخ کریں گے۔ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے مگر انہیں کیا خبر کہ درمیان راہ میں ہماری متاع حیات لٹ گئی؟

وائے حسرت ناگھیب! کل کے منعقد ہونے والے آسمانی دربار میں نسل انسانی کے تمام افراد ہمیں کیا کہیں گے۔ فرزند ان آدم میں ہم لوگ کس قدر رنگ پیدا ہوئے تھے۔ سردار قافلہ جب اپنی پوری کہانی سنا چکا تو مسافر نے سر اٹھایا اور دلنواز لہجے میں کہا: ”سردار قافلہ! اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشت زندگی رنج و محن کا ایک عبرتناک مجموعہ ہے۔ تمہارا قافلہ اس وقت جس وادی میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے متعلق ایک تاریخی راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ موقع سے بات نکل آئی ہے تو سن لو:

بہت دنوں کی بات ہے۔ ہمارے قبیلے کا ایک سیاح اس وادی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک نکیلے پتھر سے اس کے عبا کا دامن اُلجھ گیا۔ وہ جھک کر اپنا دامن چھڑا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک چکنے اور چوکور ترشے ہوئے پتھر پر پڑا۔ اس نے وہ پتھر اٹھالیا۔ جب طے کر کے وہ اجالے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یا قوت سرخ کی ایک تختی ہے جس پر بخط سبز لکھا ہوا ہے۔

”یہ کفر و ضلالت کی وادی عظلمات ہے۔ یہاں تاریکیوں کی راجدھانی ہے۔ اس وادی میں سورج کی کرنوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہاں کسی نے آج تک صبح کا چہرہ نہیں دیکھا۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے لئے کرب و الم کا یہ بڑا ہی دردناک حادثہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ امید کا چراغ گل نہیں ہوا ہے۔ تم اپنے گوہر مقصود کی تلاش میں سرگرداں تو ہو۔ بس گھبراؤ نہیں۔ شہنشاہ فلک کی بارگاہ بڑی عاجز نواز بارگاہ ہے۔ اس ظلمت کدہ بلا میں تمہارے لئے وہاں سے ضرور کوئی روشنی اترے گی۔ اور تم اپنا گم شدہ ہیرا پا لو گے“ مسافر نے تسلی آمیز لہجہ میں کہا۔

لیکن ہم بد بختیوں کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے کہاں ایسے نصیب کہ شہنشاہ کی رحمت کنگرہ فلک سے ہماری چارہ سازی کے لئے آئے گرچہ اس کے کرم کا سمندر ناپید کنار ہے مگر ہم تو ایک قطرہ آب کے لئے ترس رہے ہیں کاش! اس کی موجوں کا پسینہ ہی بن جاتا۔ اتنا کہتے کہتے سردار قافلہ کی آواز گلوگیر ہو گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے ایک

جیج نکلی“ ہائے میرا ہیرا!! اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

مسافر سے اب یہ رقت انگیز حال دیکھانہ جاسکا۔

شہنشاہ فلک کی رحمت مجسم تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم اپنی بد بختیوں کا ماتم کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے فوراً اس نے اپنے چہرے کا نقاب الٹ دیا۔

نقاب الٹنا تھا کہ اچانک فضا روشنی سے بھر گئی اور وادی عظلمات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا اس کے بعد اس نے ریت کے ڈھیر پر اپنی نگاہ برہم کی ایک تیز شعاع ڈالی اور انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ دیکھو تمہارا ہیرا چمک رہا ہے۔

سردار قافلہ نے دوڑ کر اسے اٹھالیا۔

اس حیرت انگیز واقعہ پر قافلہ والے دم بخود ہو کے رہ گئے جو جہاں تھا وہیں دیوار حیرت بنا کھڑا کا کھڑا رہا۔ انہیں اتنی بھی مہلت نہ مل سکی کہ اپنے گمشدہ ہیرے کی بازیافت پر خوشی کا مظاہرہ کریں۔

سردار قافلہ نے ادھر ہیرا اٹھایا اور ادھر مسافر نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور یہ کہتا ہوا رخصت ہونا چاہا۔ اچھا میں جا رہا ہوں۔ اب میری ملاقات وہیں ہوگی جہاں تمہیں یہ امانت واپس کرنی ہے میں خداوند فلک کی آخری روشنی ہوں بالکل آخری!“

مسافر اتنا کہہ کر قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سردار قافلہ نے آگے بڑھ کر اس کے عبا کا دامن تھام لیا۔

”میرے چارہ ساز! ابھی کہاں تم جا سکتے ہو! دیکھو ہماری پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ ابھی انہیں تمہارے قدموں پر نچاؤر ہونا ہے۔ تم ہمارے قافلہ میں ایک اجنبی مسافر کی طرح آئے مگر ہمارے دلوں کی سرزمین فتح کر لی۔ پیارے! تم اپنی راجدھانی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم یہ بھی نہ معلوم کر سکے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو“ سردار قافلہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا۔

ویسے دامن جھٹکنے کی میری عادت نہیں! لیکن تم یہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ میں کون ہوں؟ تمہارا گوہر مقصود تمہیں مل گیا۔ تم خوشی خوشی اپنی راہ لو۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میرا فریضہ کرم تھا۔ میں تم سے جزا و شکر کا طلب گار نہیں“ لَا تَطْلُبُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (بھرپور شان بے نیازی کے ساتھ مسافر نے جواب دیا۔

لیکن کسی شخص کا تعارف تو انسان کا پیدا کنی حق ہے اور پھر تم جیسا پیکر حیرت انسان جسے دیکھ کر جاننے کی کوشش نہ کرنا ہی اپنی فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ تم دامن نہ جھٹکو میرے دامن نہ چھوڑو۔ اس سے بڑھ کر ارجمند گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ گزرے ہوئے عرصہ غم کی طرح تم اسے بھی دراز کر دو۔ کفارہ ہو جائے گا“ سردار قافلہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

”دیکھو تم ایک مسافر ہو۔ غیر متعلق باتوں کا پیچھا کرنا مسافروں کا کام نہیں ہوتا۔ میں کون ہوں یہ سوال تقاضائے فطرت ضرور ہے، لیکن ہر سوال کا جواب دینا فطرت کے نزدیک ضروری کب ہے؟ دیکھو! میرے دامن سے شکستہ حال انسانوں کی لاکھوں امیدیں وابستہ ہیں، تم مجھے اجازت دے دو۔ کتنی پریم آنکھیں میرے انتظار میں ہوں گی۔ تمہاری لائینی باتوں کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسافر نے پروقار لہجہ میں جواب دیا۔

”اچھا“ تم نہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لیکن ہمارے دل کا خلجان تو دور کر دو کہ تم زیر نقاب تھے تو ہر طرف تاریکیوں کے راج تھے اور تم بے نقاب ہو گئے تو تمہارے چہرے کی شعاعوں سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ ہم تمہیں کیا سمجھیں؟ انسان یا فرشتہ؟ لیکن فرشتوں کا ایسا پیکر نہیں ہوتا اور انسان کا چہرہ سورج نہیں ہو سکتا۔ اب سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ تم حیرتوں کی ایک نئی مخلوق“۔

میرے دلنواز! میں بڑی سماجت سے کہہ رہا ہوں کبیدہ خاطر نہ ہونا“ سردار قافلہ نے جھٹکتے ہوئے کہا۔

تم سے کئی بار کہہ چکا کہ میں کون ہوں؟ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ لیکن تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے۔

میں ”کون“ ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہاری عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ لم يعرفنی حقيقة غير ربی (میرے رب کے سوا مجھے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں)

اب بھی تمہاری تشفی نہ ہوئی ہو تو سنو کہ میرے جمال حقیقت پر بے شمار نقاب پڑے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تاب نظر باقی رہ سکے اور تم میرے چہرے کی برکتیں لوٹ سکو۔ وہ بشریت کا نقاب ہے جسے ڈال کر میں نے تمہاری انجمن میں قدم رکھا ہے تاکہ تم مجھ سے

مانوس ہو کر میرے دامن کے قریب آ سکو اور میں تمہیں خدائے قیوم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دوں۔

دیدہ انسانی میرے چہرہ حقیقت کا جمال دیکھنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اس کی رسائی صرف میرے پیکر ظاہر تک ہے اور اسی سرمایہ نظر پر دنیا مجھے بشر کہتی ہے سمجھ گئے نا۔ پس تم اپنی نظر بھر دیکھ لو۔ پوچھو مت کہ میں کون ہوں میرے کشور حسن میں آنکھوں کے لئے اجازتِ نظارہ ضرور ہے پر زبان کے لئے اذن سوال نہیں۔ تم اپنی مقدور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو“ مسافر نے حکیمانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔

لیکن تم تو اس عصری فانوس میں بھی بشریت سے ماوراء نظر آتے ہو اور یہ کچھ ہماری نگاہ کا اعجاز نہیں تمہارے جلوہ آشکار کا کرشمہ ہے۔ یہی تمہارا پیکر ظاہر جسے تم نے ہمارا سر کا یہ نظر ٹھہرایا ہے تمہارے جمال حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا قریب نظر ہے یا فی الحقیقت تم ہی ایسے ہو“ سردار قافلہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔

قریب نظر نہیں ایک موجود حقیقت! لیکن بہت مبہم!! جیسے بادل کے سیاہ پردوں میں چاندنی رات!!! پھر تم ہی سوچو اگر یہ اندیشہ بے بنیاد ہوتا تو خداوند فلک کی پاک نگاہ جلال سے اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آتی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نظر اپنے نظارہ میں آزاد رہ کر بھی مجھے بشر ہی سمجھی۔ تو بتاؤ یہ کس خطرے کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟

میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا اصل مدعا تم سمجھ گئے ہو گئے اور اب یہ سلسلہ ختم کر دو گئے اچھا اب مجھے اجازت دو مسافر نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ فرط شوق کی یہ ایک بے ارادہ لغزش تھی جو خود رنگی میں مجھ سے سرزد ہو گئی۔ معاف کرنا میں نے بے محل سوال کر کے تمہیں زحمت دی۔ لیکن اتنا اور گوارہ کر سکو تو دمِ رخصت ذرا اپنا نام بتا دو۔ کم از کم تمہارے نام کی یاد سے میں اپنے خاطر کو تسکین دیتا رہوں گا۔ سردار قافلہ نے نہایت مودبانہ انداز میں کہا۔

تعجب ہے! زمین و آسمان کے زیر و زبر سے لے کر جنت و عرش کے بام دور تک دفترِ وجود کے ہر ورق پر میرے نام کی مہر ثبت ہے اور تمہیں نام بتانے کی احتیاج باقی رہ گئی ہے؟ کاش! تم پوچھنے کی بجائے پڑھنے کی کوشش کرتے۔

اچھا فرض کرو ایک ایسی ہستی جو اپنی سرشت میں ہر طرح کی آلودگی سے بالکل معصوم

پیدا ہوئی ہو۔ جس کا مزاج فطرت اتنا طیب و طاہر اتنا برتر و عالی ہو کہ مکارم و فضائل اس کے دامن میں جگہ پا کر عزت و شرف حاصل کرتے ہوں اور پھر جو اپنے محاسن و کمالات میں زمین سے لیکر کنگرہ عرش تک ساری کائنات کا مرجع حمد و ستائش ہو تو تم ہی بتاؤ ایسی ہستی کو تم کس نام سے پکارو گے؟ مسافر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔

سردار قافلہ نے کہا: ”اس کا نام سوائے محمد کے اور کیا ہو سکتا ہے (چونکہ کر) تو کیا محمد ہو؟ تم ہی نبی آخر الزماں ہو؟ اے خوشا نصیب! تم ہی قدسیوں کے جہر مٹ میں چمکنے والی وہ تجلیء فاراں ہو جس کی خبر حضرت مسیح نے دی تھی؟“

عالم کیف میں ڈوب کر سردار قافلہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ شجر و حجر کی گردنیں جھک گئیں اور دشت و کہسار کے گوشہ گوشہ سے آوازیں آنے لگیں۔

الْصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

الْصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ

الْصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

قافلے والے بھی دست بستہ کھڑے ہو کر عشق و عقیدت کی اس انجمن میں شریک ہو گئے۔

تسلیم و رضا

۔ کہتے ہیں جس کو زخمِ محبت کچھ اور ہے
کہنے کو یوں تو گل کا بھی سینہ فگار ہے

ایک دن مناجاتِ سحر کی وقت بڑے ہی رقت انگیز کیف کے ساتھ سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی۔

پروردگار مجھے نیکو کار فرزند عطا فرما۔ لبِ ہائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہِ عزت میں شرفِ قبول سے سرفراز ہوئی۔ عالمِ قدس سے آواز آئی۔
ہم نے ایک سمجھ دار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔

کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیمِ صبا نے اکنافِ عالم میں یہ مژدہ جانفرا سنایا کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمنستانِ قدس کا ایک پھول کھلا یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہِ غیب سے خاکدانِ گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔

۔ ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش
شامل کسی کا خونِ تمنا ضرور تھا

ملکِ شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرنے چائے تھے کہ ہاتفِ غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہٴ حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ تین افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔

۔ اک ان کی نگاہ آشنا نے سب سے بیگانہ کر دیا

کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرطِ ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہٴ حیات ہاجرہ سے کہا کہ دیکھو! روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ خدا ہے۔ یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے۔ یہی ابنِ آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔

۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار

گزرا تھا اس مقام سے اک کارواں کبھی

اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رقت انگیز دعا مانگی۔

اے پروردگار تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں۔ تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔

شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں ورنہ دعا سے اور کوئی نہ عا نہیں
برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔

ذرا سوچئے! ایک لقمہٴ ودق صحرا تپتے ہوئے کہسار اور اسبابِ زندگی سے بے نیاز وادی ایسے سنان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا۔ کس کا کردار ہو سکتا ہے جو کوئی آپ سے خدا کی چارہ ساز قدرتوں کا تماشا ٹائی ہو۔ خدا پر اعتمادِ کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔

ادھر حضرت ابراہیم بادیدہ پر غمِ رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کار ساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیئے۔ ریگ زار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ نبی جبرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہٴ سیال کے کنارے آباد ہو گیا اور چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غم گسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔

ساری رونق ہے یہ دیوانوں کے دم کی آتش

طوق و زنجیر سے ہوتا نہیں زنداں آباد

وہیں حضرت اسماعیل اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ جب عنقوان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔

ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا۔
میرے لاڈلے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟

ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا!
میرے شفیق باپ خواب کے ذریعہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔
غم سلامت تیرے انداز پر مرنے والے
موت کا بھی کہیں احسان لیا کرتے ہیں

سرفروش بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لئے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر منیٰ کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ مبادہ شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کانپ جائے۔
غیر کا اب گزر نہیں دل تک عشق عہدہ ہے پاسبانی کا

پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا تا کہ ذبح کریں۔

نہر جائے! ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رقت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائے کہ سنسان وادی میں ایک نوے سال کا بوڑھا باپ ہے۔ جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے۔ جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی

محبوب کے قتل کے لئے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے۔ جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی اور اب باپ ہی کا مہر پرورد ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ اے غم دوست تیری عمر دراز“

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی
ملائکہ قدس فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ
دفعۃً شہپر جبرائیل کی جھنکار سے منیٰ کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز
آئی! اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم! بلاشبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم
اپنے نیکو کار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم
نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم
کردی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے
حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی۔ لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور
حضرت جبرائیل نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کے جگہ ایک بہشتی دنبہ رکھ
دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا۔ جس سے منیٰ کی وادی لالہ زار ہوئی۔

آنسوؤں کی کی نہیں لیکن
کچھ سبب نہ تھا کہ آنکھ تر نہ ہوئی

فیروز بخت چیمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز ایثار سے اپنے
آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا۔ اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی
یادگار بن جائے۔

اسی حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا۔

یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔

ذرا سوچئے! اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت گئے لیکن اکناف عالم میں اس کی

یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے۔ جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔

اس سرائے فانی میں نقش جاوداں قربانی کی مخصوص ترین جزاء ہے۔ نوشتہ الہی کے

مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لئے سرفرازی ہے۔ جو ایثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذہب زندگی میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔

آج ذرا اپنا حال زار دیکھئے کہ خود غرضی، پست ہمتی، اور آخرت فراموشی میں ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شاہراؤں پر پامال ہو رہا ہے اور ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لٹا دیتے ہیں۔ لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لئے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بار بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے۔

ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ زار بناتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات گیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جو ہر امتیاز ہے۔

لالہ و گل تو حسیں سے بھی حسیں تر ہیں مگر
دیکھنا یہ ہے کوئی خار حسین ہے یا کہ نہیں



پہلی ملاقات

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا چالیسواں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لئے گوش برآواز تھے۔

حضرت ابوبکر اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔

ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا راستہ طے ہوتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں ہفتوں شبانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لق و دق صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔

حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہارت تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک دال تھی چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندوہناک ہوتی ہے بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں

بسر کی جائے۔

خدا کی شان کی تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لئے ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔

قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا۔

آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آرہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا۔ ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں؟

اس شخص نے جواب دیا۔ یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے سو سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جاسکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے پچیس سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبہ نہ ہو کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سرشام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آگیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کی اجازت دے دی گئی۔

صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لئے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔

اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی بحرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکو کار

مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کرادو پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار و نیکو کار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جاسکے۔ ہزار حسن ظن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی بے بسی کی کش مکش میں اس نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکو کار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔

اس جواب کے بعد حضرت ابو بکر نے فوراً کہا ”تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کرلو۔ اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ وقت کلیسا کے ایک گوشے میں گزار لوں۔ بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا ورنہ ایک مسافر کے لئے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔

تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا اور پیکر عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی۔

ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم پڑتا ہے جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔

راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا ”کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟“

خادم نے جواب دیا ”میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں۔“

راہب نے پر تپاک لہجے میں کہا ”ضرور دریافت کرو اور جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔“

خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا۔ یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس کے کو آپ نے اپنا مسکن بتایا ہے کیا وہ پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ کھڑے ہیں۔

حضرت ابوبکر نے جواب دیا ہاں! یہ دونوں باتیں واقعہ کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا۔

زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجئے۔

”مجھے ابوبکر کہتے ہیں۔“

”اٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی کہ بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ اپنا نام ابوبکر بتاتا ہے۔“

”ابوبکر کا لفظ سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں۔ جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک دفتر نکالا اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق الٹتے الٹتے ایک صفحہ پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گمشدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔

فورا ہی بیتابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی اور کہا: ”کے کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے؟“

خادم نے پھر آ کر دریافت کیا۔ بار دیگر آپ کو اس امر کی تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟

حضرت ابوبکر نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دے دیا۔

”ابوقحافہ“

واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اُنھیں جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا۔ جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔“

راہب کا یہ حکم سن کر خادم کو انتہائی اچنبھا ہوا۔ سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ سو برس کی روایات کے خلاف یہ بالکل اجنبی حکم کیا واقعہ تعمیل کے لئے ہے یا یوں ہی زبان سے نکل گیا ہے؟

اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا تمہیں پس و پیش کیوں ہو رہا ہے میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ حکم کی تعمیل کرو۔ اظہار

حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر اپنے تئیں اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی جوں ہی قدموں کی آہٹ ملی وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لئے گوش برآواز ہو گئے۔

خادم کے چہرے سے حیرت و استعجاب کی پر اسرار خموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی ”اب میرے لئے تمہاری شخصیت سرتاسر ایک معرہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی ایک صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے بلکہ تمہاری سحر طراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اپنے خلوت کدہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ عشق کے لئے گراں بار بن جائے گی۔

حضرت ابوبکر مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔

کئی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بھنویں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا سر سے پانک جسم انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر مقدم کے لئے کھڑا تھا۔

حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی۔

”اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا

شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔

یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز

روشنی میں سر سے پانک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پہ انگلی

رکھتا۔ کبھی چہرے کے خدو خال کا مطالعہ کرتا نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل

کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی۔

”زحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو“

کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے اپنے لرزتے

ہوئے ہونٹ سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔

اجازت دو کہ میں تمہیں" (امیر المومنین ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں) "تخیر آمیز لہجے میں حضرت ابوبکر نے کہا" سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیرا پھیلا دیا ہے تم نے؟ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو۔ کبھی کئی سو برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہی ہے جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا تم ہی سوچو! آخر یہ کیا تماشا ہے؟ در ماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔

سیدھے سادھے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دے دو ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لئے بہت کافی ہے۔"

یہ کہہ کر حضرت ابوبکر واپس ہی لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش! آسمانی بشارت سن کر تم آزرده خاطر ہو گئے معاذ اللہ! روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔

آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو۔ لیکن سن لو کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے جس کے جلو میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔

آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان ہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دہکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے۔ کہ تمہارے داہنے ہاتھ کا یہ قل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو لو اپنا سراپا تم خود ہی ان آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔

بہر حال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو۔ تجلیات قدس کے نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا سایہ تو کیا چیز ہے تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔

ایک ہنگامہ خیز تحیر کے هجوم میں حضرت ابوبکر راہب کے خلوت کدے سے اٹھے اور کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امنڈتا رہا ایک لمحے کے لئے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔

صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ انگبار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکے کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا۔

تبہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔

کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر اپنی تجارتی مہم سے مکے کو واپس لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔

ام القرئی کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔

تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگیں نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے سلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے غلام نے اونٹنی کی مہارت تمام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً یہ خبر سنائی۔

”تم غالباً ایک عرصے پر اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔“

حضرت ابوبکر نے جواب دیا۔ پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔

ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ”عبداللہ کے بیٹے محمد کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دلعزیز تھا۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا۔ لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچا ہوا ہے۔ وہ

کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے لات و ہبل کے سنگ آستاں سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیائے عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے کے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔

فی الحال ابوطالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جاسکتی ہے۔ لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دست برداری کا اعلان کر دیں گے۔ اس دن کے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔

قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہر کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔

ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشین گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ”ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں۔ چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا ہوں بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا ابھی سر راہ عجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔“

ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذب طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اس مسافر نے بج دج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے سیدھے ابوطالب کے گھر پہنچے اور سرکار اقدس کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ بوقیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔

ایک نامعلوم وارثی عشق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ بوقیس کے قریب پہنچے دیکھا کہ دامن کوہ میں سرکار ایک چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ عارض تاباں سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

مرحبا اھلا وسھلا :- مبارک ہو تمہارا آنا مبارک ہو۔

خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔

اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر کی یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرکار کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت مرحومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابوبکر اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لئے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی۔

ابوبکر! کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنیوالوں کا انتظار نہ کرو خدا کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کرو۔

حضرت ابوبکر نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لئے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لئے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔

سرکار رسالت نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ نشانوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتیاج باقی رہ گئی ہے؟ کلیسا کی اس سنان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ یاد کرو! تمہاری داہنی کلائی کا تل دیکھ کر شام کے راہب نے تم سے کیا کہا تھا؟

میری رسالت کی تصدیق کے لئے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟

فرط حیرت سے حضرت ابوبکر پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلوؤں میں شراپور ہو کے رہ گیا۔

جذبات کے ہیجان میں بے مایا جھنجھٹے۔ اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا

تماشا کی ہو یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تامل نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔

دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔

اسلام کی تاریخ میں توحید و رسالت کا یہ پہلا اقرار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کے پس منظر میں منصہ شہود پر آیا۔ اب ذرہ عقل ناہنجار کی فتنہ سامانی دیکھئے کہ جس عقیدے کو قبول کر کے تاریخ کا سب سے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا وہی عقیدہ آج کے بداندیشوں کے تئیں حلقہٴ اسلام سے اخراج کا ذریعہ بن گیا ہے۔

اور صرف ایک حضرت صدیق ہی نہیں تاریخ کے صفحات پر بے شمار ہستیاں ہیں جن کے اسلام کا محرک رسول پاک صاحب لواک کی غیب دانی ہے۔ سرکار کا یہ وصف شریف کسی کی ذاتی سرگزشت تک محدود نہ تھا بلکہ دنیائے عرب میں اس کی اتنی عظیم شہرت تھی کہ لوگ گھروں میں اپنی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں سرکار سن نہ لیں۔

حضور کی غیب دانی کے بارے میں مکے کے مشرکین کا عام عقیدہ تھا کہ کسی بھی واقعہ پر مطلع ہونے کے لئے انہیں کسی مخبر کی ضرورت نہیں دیواروں کے ذرے اور رہگذر کے سنگریزے انہیں خبر کر دیتے ہیں۔

اسی ابو جہل کے متعلق یہ واقعہ عوام و خواص میں مشہور ہے کہ منصب رسالت کی آزمائش کے لئے وہ چند کنکریاں مٹھی میں چھپائے ہوئے حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ رسول ہیں اور آسمان و زمین کے اسرار کی خبر رکھتے ہیں تو بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے؟

ابو جہل جیسے شقی و منکر کو بھی یہ اعتراف تھا کہ رسول کے لئے غیب دانی لازم ہے جو رسول ہو گا اسے زمین و آسمان کے اسرار کی یقیناً خبر ہوگی لیکن یہ آج کے کلمہ گوہیں جو رسول پاک کی غیب دانی کا انکار کرتے ہوئے ابو جہل سے بھی نہیں شرماتے۔



ایک وجود! دو حیرتوں کا مجموعہ

رجب کی ۲۶ ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ درود یوار سے حبیب کبریا کے جلوہ کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرشِ گیتی کے لئے چلنا ہی چاہتا تھا۔ حجابِ عظمت سے آواز آئی!

عرش کی قدیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے۔ جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے۔ قدم قدم پر تجلیات کی شمعیں روشن کر دی جائیں۔ روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے۔ حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہن اتار دیں۔ ملکوتِ اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں۔ افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں۔ وقت کا قافلہ رُک جائے۔ خیر مقدم کے لئے پیغمبراں الوالعزم آسمانوں کی گزر گاہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ فرشِ گیتی سے بہ ہزاراں جاہ و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے۔ وہی حبیب جو میرے دستِ قدرت کا نقشِ اول ہے۔ جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا۔

فرمان سننے ہی عالمِ قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سماں بندھ گیا۔ چشمِ زدن میں عالمِ بالا کا نقشہ بدل گیا۔ جنت کی کٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں۔ آسمان صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیئے گئے اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا۔ مہتابی کنکروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ سطوتِ جلال سے

عرش کا پایا ہل گیا۔ جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گل ریز تبسم نے موتی لٹائے۔ حسن بے نقاب نے چراغاں کیا۔ روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئیں۔ دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا۔ اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا۔ تجلیات کے جلو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے۔ فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک نوارنی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا۔ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے وہ مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا۔ دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔

حبیب کبریا محو خواب تھے۔ آنکھیں بند تھیں، دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور اپنے کا فوری لب محبوب کے پائے ناز سے مس کر دیئے۔ ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی زکسی آنکھیں کھل گئیں۔ دریافت فرمایا! جبرائیل کیسے آنا ہوا؟

سفیر غیب نے جواب دیا! خدائے برتر کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس پچھڑے ہوئے محبوب کے لئے چشم براہ ہے۔ وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی ناممکن ہے۔ آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں خرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور! تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔

چند ہی لمحے کے بعد خاکدانِ گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوا کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیازمند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔

مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لئے حاضر تھیں، سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضور آسمان کی طرف چلے۔ گزرگاہوں پر خیر مقدم کے لئے پیغمبران الوالعزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لئے

جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی جیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔
 قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا پھر وہاں سے آگے بڑھے بڑھتے رہے۔ عالم
 ملکوت بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر بڑھے بڑھتے بڑھتے اب وہاں سے جہاں کی خبر کسی کو نہیں معلوم
 ایک محبوب اپنے محبت سے ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا؟ ماتھے کی آنکھ سے اُن
 دیکھی ہستی کا نظارہ کیونکر ہوا؟ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ پایگاہ شہنشاہی سے محبوب کو کیا کیا خلعتیں
 عطا ہوئیں۔ یہ ساری تفصیلات صیغہ راز میں ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے ککے میں شور برپا تھا۔
 اہل یقین و خرد خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر ثار ہو گئے۔ لیکن نادانوں نے کہا۔ ایک بشر کے
 لئے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ حیرت ہے کہ
 ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آرہی ہے۔
 خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آپس

میں کہا۔

”تمہیں وہ رات یاد ہوگی۔ جس کی صبح کو عبد اللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی
 تھی زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا اور ککے کی ساری
 فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا اہتمام
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم
 قدس کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں کیونکر تشریف لاسکتا ہے؟ اور آج جب وہ اپنی
 مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لئے واپس تشریف لے گئے تو بنی نوع انسان کے یہ نادان
 افراد حیرت سے واقعہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں جہاں اسی واقعہ پر گواہ ہیں۔ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے۔ وہ یہاں آئیں تو فرشتوں کو حیرت اور یہاں
 سے جائیں تو انسانوں کو حیرت۔ ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔

دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقلوں پر ہے۔ جو
 ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے۔ جانے پر حیرت زدہ ہیں۔ حالانکہ کسی کو اپنے وطن
 میں ہونا باعث حیرت نہیں ہے۔ باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔

جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں

ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے

عرش الہی کے سایہ میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے تھے۔ حجاب عظمت سے آواز آئی۔

ملاء اعلیٰ کے تمام فرشتے آج کی رات زمین پر جمع ہو جائیں۔ وہیں جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے جو اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے۔

آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق و مغرب بحر و بر اور تمام اقطار ارضی میں منادی کر دی جائے۔ کہ کونین کا تاجدار آرہا ہے۔ اس کے خیر مقدم کے لئے اپنی نگاہوں کا فرش بچھائے رکھئے۔ مکہ کی وادیوں اُمّ القرئی کے کہساروں اور حرم کے بام و در پر چمنستان فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑھا دیا جائے۔ سیارہ افلاک کے پہرہ داروں سے کہہ دو کہ اس وقت آج آفتاب کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائیں جب تک خسرو کائنات کی طلعت زیبا سے خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ منور نہ ہو جائے۔

ستاروں کی انجمن میں اعلان کر دو کہ آج رات کے پچھلے پہر اپنی مجلس شینہ برخواست کر کے فرش زمین پر اترتے رہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے کنگرہ عرش سے لے کر گل کدہ فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سمٹ کر آئیں۔

جیسے ہی صبح صادق کا اجالا چمکا۔ مکہ کی فضاء رحمت و انوار سے بھر گئی۔ نقیبوں کی صداؤں سے دشت و جبل گونج گونج اٹھے۔ گلی گلی حورانِ خلد کے آنچلوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔

جبرائیل امین ایک سبز پرچم سے لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور حضور شاہی میں سلامی پیش کی۔

الْصَّلَاةُ السَّلَامُ يَا مُحَمَّدُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

اس صدائے سلام و تہنیت پر تمام ملائکہ سر و قد کھڑے ہو گئے۔ حرم کی جھکی ہوئی دیواریں ایستادہ ہو گئیں۔ امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم سے آئی کہ صدائے مرحبا سے اکناف۔ م گونج اٹھے۔

حضرت روح الامین کی زبان سے جائے محمد کا مژدہ سن کر ایک فرشتہ نے دبی زبان

میں اپنے ساتھیوں سے کہا۔

تم لوگ جانتے ہو۔ یہ محمد کون ہیں؟ جن کی آمد پر زمین سے لے کر آسمان تک اتنا کرواحشام اور شکوہ جلال کا ایک عالم آباد ہو گیا۔

ساتھیوں نے جواب دیا۔ اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کہ محمد کون ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔

فرشتہ نے کہا! وہ محمد جن کا نام عرش الہی کے بام و در پر کندہ ہے اور جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ ہیں۔ بھلا انہیں کون نہیں جانتا بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہیں۔ معاذ اللہ! یہ بات بھی پوچھنے کی تھی۔

ساتھیوں نے کہا۔ تو پھر پوچھنے کی وجہ! کیا عرش و فرش کی کائنات میں ان کے سوا بھی کوئی اور محمد ہے؟

فرشتے نے جواب دیا! پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ تم ہی سوچو! وہ محمد نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا اور کنز مخفی میں جن کی نشوونما ہوئی اور اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے۔ وہ دیار نور ہے۔ اس جہاں تاریک میں کیونکر آسکتے ہیں۔ آخر ہم کیسے باور کر لیں کہ وہ محمد کہ جن کے ریح و روشنی میں ہم لوح محفوظ کے نوشتے پاتے ہیں۔ وہ یہاں آ گئے۔ کیا عرش کی قدیلیں بے نور ہو گئیں۔ یا کرۂ ارض جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور وہ محمد جس کے قدم کے قریب عالم امکاں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، دونوں میں کیا جوڑ ہے۔ عالم نور کا پروردہ ناز اس عظمت کدہ خراب میں آخر کسے یقین آ سکتا ہے۔

ساتھیوں نے جواب دیا! ویسے بات تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ لیکن غلط نہیں ہے۔ یقین کرو۔ ان کی تشریف آوری امر واقعہ ہے۔ وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس کے لئے ہوتا؟ حضرت روح الامین کعبہ کی چھت پر کھڑے کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا! آخر اسمیں بحث و تکرار کی کوئی بات ہے۔ ہاں وہی محمد تشریف لائے ہیں جو مسند نشین عرش ہیں۔ لیکن یقین نہ آنے کی وجہ! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدائے ذوالجلال نے عرش و فرش کی مملکت انہیں بخش دی ہے۔

ایوان شاہی کا شکوہ و جلال مسلم! مگر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجہ فرمانا عظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ اب تک ملاء اعلیٰ مرکز توجہ تھا۔ اب خاکدان گیتی کا طالع قسمت اوج پر ہے۔ اب تک یہ شمع تجلی عرش کی انجمن میں فروزاں تھی۔ اب فرش کا شبستان روشن ہو گیا۔

اور تمہارا یہ استعجاب! کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیونکر آ سکتا ہے؟ خود باعث تعجب ہے۔

دور کیوں جاؤ؟ خود اپنا ہی حال دیکھ لو۔ یہ لطیف پیکر اسی وقت کس عالم میں ہے؟ عالم گیتی کی عمر کے لحاظ سے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے۔ جب محکمہ اجل کے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرنے بشر کے مثال پیکر میں یہاں آئے تھے۔

میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی روح پھونکنے جب حضرت مریم کے پاس آیا تھا تو میرا مثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی مواد موجود ہے۔ کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بشری لباس میں آنا یہاں کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ بلکہ قطعاً واقع بھی ہے۔“



جلوؤں کی وادی

مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کی وادی تاریخی عظمتوں کی ایک بہت بڑی جلوہ گاہ ہے۔ عشق و ایمان کی بہت سی جاں فروز کہانیاں اس کے دامن سے وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہجری میں اپنے پندرہ سو جانثاروں کے ساتھ طواف کعبہ کی نیت سے مکہ کے لئے روانہ ہوئے جب مکہ چند میل رہ گیا تو حدیبیہ نام کی ایک وادی میں قافلے کے ٹھہرنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہیں پر یہ خبر موصول ہوئی کہ کفار مکہ نے طے کر لیا ہے۔ کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

یہ اطلاع پانے کے بعد سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ مکہ والوں سے جا کر کہیں کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ صرف عمرہ کر کے یعنی صفا و مروہ کی سعی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹ جائیں گے۔ بے خطر ہمیں حرم میں آنے کی اجازت دیں۔

سرکار کا یہ پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ شہر میں پہنچ کر انہوں نے سردار ان مکہ سے ملاقات کی اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔

ابھی حضرت عثمان مکہ ہی میں تھے کہ کسی نے قافلے میں یہ خبر اڑادی کہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اس خبر کے مشتہر ہوتے ہی صحابہ کرام میں سخت اضطراب و ہيجان برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام کی بیٹابی دیکھ کر سرکار نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کیا اور اس بات پر ہر ایک شخص سے عہد لیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لئے جان تک کی بازی لگا دی جائے گی۔

ویسے سرکار سے یہ حقیقت منہ نہیں تھی کہ یہ خبر غلط ہے اور حضرت عثمان زندہ و سلامت ہیں۔ جیسا کہ اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ کہ سرکار کے ہاتھ پر جب سب لوگ بیعت کر چکے تو اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست کریم کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ زندہ نہ ہوتے تو ہرگز انہیں بیعت میں شریک نہ فرمایا جاتا۔ کیونکہ وفات یافتہ آدمی سے کسی معاہدہ پر اقرار لینا قطعاً بے معنی ہے۔

اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت عثمان ہم سے پہلے مکہ پہنچ گئے یقیناً انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ حضور انور کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عثمان بغیر ہمارے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے۔

صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ آخر کون سی چیز انہیں طواف سے مانع ہوگی جبکہ وہ حرم میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ان کا جذبہ اخلاص کبھی انہیں اجازت نہیں دے گا کہ وہ بغیر ہمارے طواف کر لیں۔

چنانچہ جب حضرت عثمان واپس لوٹے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو خدا کے گھر کا طواف کر لیا ہوگا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عشق و ایمان کا جذبہ اخلاص انگ انگ سے پھوٹ پڑا پھرے ہوئے جذبات میں یہ جواب دیا۔

میرے ساتھ اس سے زیادہ سخت بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ میں بغیر رسول اللہ کے خدا کے گھر کا طواف کر لیتا۔ خدا کا گھر تو پہلے سے موجود تھا لیکن گھر کی چوکھٹ پر رہتے ہوئے بھی گھر والے سے ہمارا کیا رشتہ۔ تھا؟ عرفان خداوندی کا یہ سارا تقرب تو رسول ہی کا عطا کیا ہوا ہے انہی کے دم قدم سے خدا کے ساتھ ہماری روحوں کا سررشتہ وجود میں آیا ہے۔ بھلا میں انہیں چھوڑ کر کس منہ سے دربار خداوندی کا رخ کرتا۔

قسم خدا کی ایک سال بھی اگر مجھے انتظار کرنا پڑتا تو میں اپنے رسول کے انتظار میں ایک سال تک خانہ کعبہ کا طواف ملتوی رکھتا۔ قریش کے سرداروں نے بار بار مجھے اصرار کیا کہ میں خانہ کعبہ تک آ گیا ہوں تو طواف کر لوں۔ لیکن میں نے ہر بار انکار کیا کہ اپنے رسول کے بغیر میں ہرگز طواف نہیں کروں گا چاہے خانہ کعبہ میرے پیش نظر ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس جواب نے خانہ خدا اور حبیب خدا کا فرق اتنا واضح کر دیا ہے کہ مظاہر خداوندی میں رسول کی حیثیت سمجھنے کے لئے اب فکر و نظر کا کوئی حجاب باقی نہیں رہا۔ اب یہ راز پوری طرح واشکاف ہو گیا کہ خدا شناسی کی منزل میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرفان کیا ہے؟ پھر حضرت عثمان کا یہ مشرب کچھ ان کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ سرکار نے یہ وجہ بتا کر کہ ان کا جذبہ اخلاص کبھی اجازت نہیں دے گا۔ کہ وہ میرے بغیر طواف کر لیں، واضح کر دیا کہ عشق و ایمان کا مزاج ہی یہی ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)



عشق و اخلاص کی ارجمندی

کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ”اسود راعی“ نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں تلواریں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے نیزے اور تیروں کی نوکیں صقل کی جا رہی ہیں جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اس نے متعجبانہ لہجے میں دریافت کیا۔

”یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟“

یہود نے جواب دیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امروز فردا میں اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔

یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا۔ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لئے ساتھ آئی ہے یہ بادۂ قریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہونہ ہوا انھوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔

یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ”یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار کے لشکر میں پہنچ گیا۔

حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا۔

”آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟“

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دل کشور کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب

دیا۔

”اس بات کی کہ اللہ واحد ولا شریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے

نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔

اس نے پھر دریافت کیا۔ ”اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی

نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟“

فرمایا! ”عالم آخرت کی دائمی آسائش۔“

پھر اس نے جذبہ شوق میں بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا۔ یا رسول اللہ! میں حبشی نژاد

ہوں میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے۔ میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں

میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو

کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟“

ارشاد فرمایا۔ ”ضرور ملے گی۔“

یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہوا۔ اس کے

بعد حضور سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔

ارشاد فرمایا۔ ”دوسرے کی چیز ہمارے لئے حلال نہیں ہے۔ انہیں قلعہ کی طرف لے

جاو اور کنکر مار کر ہنکا دو۔ یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ولولہ شہادت کے ہیجان سے اسے ایک لمحہ قرار نہیں

تھا۔ فوراً اٹھ پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔

واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہوں کی

قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اسکے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح

ٹپک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و تثلیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بیتاب

دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔

اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکشا معلوم ہوتا تھا جیسے کالی

گھاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔

کہتے ہیں کہ نہایت بے جبری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہولہان ہو گیا تھا۔ لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا۔ یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح چل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئیں۔

فرمایا۔ ”اے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا۔ اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و درجہ گما اٹھے ہیں۔ اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشتی اپنے اچھل بسا رہی ہیں۔ جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جہر مٹ میں لئے ہوئے باغ خلد کی سیر کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ!

سرکار کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے چل گئے اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ عمل میں نہ ایک وقت کی نماز تھی نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لئے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔

سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنت کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکھ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے زرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذب عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاک زادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا اور محبت ہی کا گداز تھا جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے روندوا ڈالا۔



عشق و ایمان کا کردار

اسی وادی میں عقیدت و عشق کا ایک اور نہایت رقت انگیز واقعہ پیش آیا۔ سہیل ابن عمر و قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ جب باتیں طے پا گئیں تو اب انھیں قید تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سرکار نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو صلح نامہ کی عبارت لکھنے کے لئے بلایا۔ وہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کی عبارت کا یوں افتتاح کیا۔

هَذَا مَا صَلَّحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يَهْدِيهِ نَكَاتٌ هِيَ جَنُّهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَحَتْ فَرَمَاكَ۔ اتنا ہی فقرہ حضرت علی لکھنے پائے تھے کہ سہیل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

”یہ کاغذ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ اس پر کوئی ایسی عبارت نہیں لکھی جاسکتی جس سے فریقین میں سے کسی کو اختلاف ہو۔ ہم آپ کو اگر رسول اللہ ہی تسلیم کر لیتے تو اس مصالحت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی۔ اس لئے آپ معاہدے کی عبارت سے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیجئے اور اس جگہ ابن عبد اللہ لکھوائیے۔“

حضور نے یہ سوچ کر کہ مصالحت میں کوئی رخنہ نہ واقع ہو حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور اس کے بجائے ابن عبد اللہ لکھ دو۔

بارگاہ رسالت میں حضرت علی کا جذبہ اطاعت شعاری محتاج بیان نہیں ہے مقام صہبا میں آپ کا یہ واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے سرکار کے خواب ناز پر اپنی نماز جیسی متاع گرانمایہ کو نثار کر دیا تھا۔ جب کہ حضور آپ کے زانوائے اطہر پر سر رکھ کر آرام فرما

رہے تھے۔ جس کے احساس ادب کی نزاکتوں کا یہ عالم ہو کہ کچی خیند محبوب کا اٹھ جانا بھی اسے گوارا نہ ہو اس کے دل نیاز مند کی فداکاریوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن حدیبیہ کے چشم دید گواہوں کی زبانی یہ معلوم کر کے سکتے سا طاری ہو جاتا ہے کہ انہی حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹا دو تو ان کا جذبہ عقیدت اس حکم کی تاب نہ لاسکا۔ فرط الم سے دل کو ایسی ٹھیس لگی کہ جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔

ایک ٹوٹ جانے والے گھائل کی طرح مچلتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔
 وَاللّٰہِ لَیْنِ اَمَحُوْکَ اَبَدًا۔ قسم خدا کی میں ہرگز آپ کو نہیں مٹاؤں گا مقام صلح و انکسار میں حضور اسے گوارا کر لیں، لیکن گدایانِ عشق اسے اپنے جذبہ ایمان کی توہین سمجھتے ہیں۔
 نقش قدم پر مر مٹنے والے یہ سننے کی بھی تاب نہیں رکھتے کہ محبوب کے اسمِ اعظم کا نقش مٹا دیا جائے۔

سہیل ابن عمرو کے اصرار پر جب حضور نے دوبارہ کہا تو غیرت جلال سے حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حالتِ اضطراب میں وہ اپنی تیغ ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے کہ حضور نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹا کر اس کی جگہ ابن عبد اللہ“ لکھ دیا۔

عقل انسانی اس مقام پر حیران و ششدر رہ گئی کہ وہ نبی امی جسے کبھی نوشت و خواند کا سابقہ نہ پڑا ہو اس نے کیونکر ایک لفظ کو پڑھ کر مٹایا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا۔
 حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ یہ سب کچھ معجزہ کے طور پر حضور سے صادر ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ انداز جواب منزلِ عشق عرفان کے مسافروں کیلئے ایک بہترین مشعل ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت کا سراغ آسانی سے مل جاتا ہے کہ مدنی سرکار مقامِ انکسار میں اپنے لئے جو بات پسند فرمائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے سرکار کے لئے اسی رخ پر سوچیں۔ یہ ان کا مقام تواضع ہے کہ اپنے خاک نشینوں سے ملنے کے لئے وہ فرازِ عرش سے نیچے اتر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ تو سرتاسر ہمارے ہی محسوس کرنے کی چیز ہے۔

پس سرکار کے تواضع پسند ارشادات کو بنیاد بنا کر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمسری کا خواب دیکھنے لگتے ہیں انہیں حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس طرزِ عمل میں اسلام و ایمان کا مزاج سمجھنے کے لئے بہت واضح اشارات ہیں۔



آبِ حیات

یہ شاعری نہیں امر واقع ہے کہ سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن رحمت و نور کا ایک ایسا قطرہ سیال تھا جس سے خود زندگی آسودہ ہوئی۔ فیضانِ الہی کے اس آبشار سے جہاں ایک قطرہ ٹپکا۔ ہر طرف رحمت و اعجاز کے جلوے بکھر گئے۔

کہیں جلتے ہوئے زخموں کو گل و لالہ کی ٹھنڈک میسر آئی اور کہیں آبِ شور کا ذخیرہ ایک آن میں چشمہ شیریں بن گیا۔ خلق کے نیچے اتر نہیں کہ شیر خوار بچے دن بھر کے لئے ماؤں کے دودھ سے بے نیاز ہو گئے۔

اس اعجاز سراپا کی کس کس خوبی کا ذکر کیجئے۔ گزرنے والا کب کا گزر گیا۔ لیکن راہیں آج تک معطر ہیں۔ دیکھنے والے نے جس رخ سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی انگشت بدنداں رہ گئے۔

کہتے ہیں کہ سرکار کے لعابِ دہن کی برکتوں سے مدینے کے بچے تک اتنے مانوس و باخبر تھے کہ ایک بار حضور کی مجلس اقدس میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سرکار کی داہنی طرف ایک خورد سال بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر مشاہیر صحابہ تشریف فرما تھے۔

حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہر کام داہنی طرف سے شروع فرماتے تھے یہاں تک کہ اپنے پس خورہ تبرکات کی تقسیم بھی داہنی ہی طرف سے شروع فرماتے۔ دودھ کا کچھ پیالہ نوش فرما کر جیسے ہی حضور نے اسے تقسیم کرنا چاہا۔ داہنی طرف بیٹھے ہوئے بچے کی طرف نظر پڑی۔ حضور نے اس بچے سے دریافت فرمایا۔

”میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تمہیں کو پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقسیم کا سلسلہ تم

سے شروع کیا جائے۔ لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کے حق میں ایثار کر سکو تو اجازت دو کہ بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقسیم کا آغاز کروں۔

بچے نے سر جھکا کر انتہائی ادب سے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! کوئی اور بات ہوتی تو اپنے حق سے دستبردار ہونے میں مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ لیکن یہ ایثار میرے لئے بہت مشکل ہے کہ سرکار کا لعاب دہن پیالے کے جس حصے سے مس ہو گیا ہے اس کی برکتوں سے میں اپنے آپ کو محروم رکھوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی اس خوش عقیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا۔ اس کا حق بھی اسے عطا کیا اور فضل و برکت کی دعاؤں سے الگ اسے نوازا۔

کہتے ہیں کہ سرکار کے لب کی مسیحائی نے بیماروں اور زخموں کو شفا خانوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ عین میدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی، کسی کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہو گیا۔ کوزخموں کی ٹیس سے تڑپ رہا ہے کہ ناگہاں سرکار کو اطلاع ہوئی۔ اب تکلیف کے مقام پر لعاب دہن مس کرتے ہی نہ تکلیف رہی نہ زخم کا کوئی نشان موجود تھا۔

چنانچہ جنگ خیبر کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کئی دن تک لگاتار حملوں کے بعد بھی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار انور نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”کل صبح کو میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اور کل کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہو۔“

یہ مژدہ جانفرا سن کر ہر شخص جذبہ شوق میں بھر گیا۔ یہ دونوں جہاں کے اعزاز کی سب سے گراں مایہ بشارت تھی۔ روحوں کے خوابیدہ ولولے اس طرح جاگ اٹھے کہ صبح سعادت کے انتظار میں آنکھوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ آرزوئے شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تہہ و بالا ہونے لگا۔ ہر مجاہد اپنے اپنے تئیں اس قابل رشک اعزاز کا امیدوار تھا، جب صبح امید طلوع ہوئی تو سارے تمنائی بارگاہ رسالت میں سر کے بل حاضر ہوئے۔ سارا مجمع گوش برآواز تھا کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے۔ کس کے نصیب کی ارجمندی آسمان کے

کنکروں سے آنکھ لڑاتی ہے۔ انتظار شوق کی بے تابوں کا یہی عالم تھا کہ سرکار نے شمع رسالت کے ان وفاکیش پروانوں کو ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا۔

”حضرت علی کہاں ہیں“ کسی نے جواب دیا وہ آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس لئے حاضر نہیں ہو سکے۔ فرمایا اسی حالت میں اُسے بلوایا جائے۔ جیسے ہی وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے انہیں قریب بلایا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا کر یہ حکم سنایا۔

اسلامی لشکر کا فرخندہ فال پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدور ہو چکی ہے۔ خدائے قدیر تمہیں میدان جنگ سے فائز المرام واپس لائے۔ واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی دم کے دم میں ساری تکلیف رفع ہو گئی۔ نہ آنکھوں میں سرخی تھی نہ ورم کا کوئی نشان موجود تھا۔

پھر مولائے کائنات کا کیا کہنا۔ اس نیرستان ہستی میں وہ شیر خدا تھے۔ ویسے ہی صحراؤں اور پہاڑوں میں ان کے زور بازو اور سطوت جلال کا ڈنکا بجتا تھا اور آج تو ان کے حوصلوں کے جبروت کا عالم ہی اندازے سے باہر تھا۔ کونین کے سلطان نے خود اپنے فیروز مند ہاتھوں سے اس پیشانی پر فتح کا سہرا باندھا تھا۔ حملے کی پہلی ہی یلغار میں خیبر کا وہ مابہ ناز قلعہ فتح ہو گیا اور یہودیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لئے وہ ذلتوں کی خاک میں سو گئے۔

اس واقعہ میں ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی خبر نہیں تھی وہ سخت غلطی پر ہیں۔ سرکار کو اگر آئندہ کی خبر نہ تھی تو یہ کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔

یہی نہیں بلکہ احادیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی خبر دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے۔

لعاب دہن کے اعجاز و برکت کے سلسلہ میں ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صحابی

رسول ناپینا ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ آنکھوں کی سیاہ پتلی بالکل سپیدی میں تبدیل ہو گئی تھی۔

صحابہ کے عام دستور کے مطابق ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت پیش کی۔ ان کی فریاد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ اٹھے اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں۔

لعاب دہن کی برکت سے وہ پینا ہو گئے اور یہ بینائی اخیر عمر تک قائم رہی۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اسی برس کے بڑھاپے میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگہ ڈال لیا کرتے تھے۔

ماتم ہے ان حضرات کی عقل و بصیرت پر جو ایسے سہرا پا اعجاز پیغمبر کو اپنی طرح معمولی بشر کہتے ہیں اور انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔

ذہن کا یہ ناپاک تصور تنہا دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی کے لئے کافی ہے۔ خدا ان گمراہوں کے شر سے اپنے رسول کی وفادار امت کو بچائے۔



شوکتِ اقتدار

آج ہجرت کی رات تھی۔ سارے قبیلے کے نمائندہ کفر تیج بے نیام لئے انتظار میں کھڑے تھے۔ اسی رسولِ رحمت کے انتظار میں جو انہیں ہلاکت و تباہی کے دھانے سے آسائش دوام کی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لانا چاہتا تھا۔ اچانک پچھلے پہر کا شانہ نبوت کا دروازہ کھلا۔ ایک کرن چمکی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ خدا کا حبیب مسکراتا ہوا باہر نکلا اور تلواروں کے سائے سے گزر گیا۔ سحر کے اجالے میں صحرائے کفر کے خونخوار درندے جب دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے حیرت سے وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ پیغمبران کی پلکوں کے نیچے سے گزر گیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی ہزار تیاریوں کے باوجود زہر میں بجھی ہوئی تلواروں کا مصرف حاصل نہیں ہو سکا۔ قبائلی عرب کے مشترک محاذ پر آج کی شکست فاش سے رہبران کفر تمللا کے رہ گئے۔ فوراً ہی دارالندوہ میں مشاورت کی مجلس منعقد ہوئی اور طے پایا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اگر تعاقب کیا جائے تو آسانی سے انہیں پکڑا جاسکتا ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی گرفتار کر کے لائے گا۔ اسے انعام میں سرخ اونٹ دیئے جائیں گے۔

(۲)

عرب کے مانے ہوئے شہسوار سراقہ کے کان میں جونہی اس اعلان کی خبر پہنچی وہ انعام کے لالچ میں اس مہم کو سر کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ فوراً ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے بھاگ سنبھالی اور دم کے دم میں نگاہوں سے او جھل ہو گئے۔

کچھ دور چلنے کے بعد انہیں مدینے کے راستے پر دو جھلملاتے ہوئے سائے نظر آئے

خوشی سے چہرہ دک اٹھا۔ سرخ اونٹوں کی قطار تصور میں ریٹکنے لگی۔ فرط مسرت میں گھوڑے کو مہینز لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آن کی آن میں قریب پہنچ گئے۔

خدا کا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناقہ پر سوار مدینے کی طرف تیز تیز بڑھتا جا رہا تھا۔ سراقہ نے کند ڈالنے کے لئے جونہی قدم آگے بڑھایا۔ ایک پر جلال آواز فضا میں گونجی: یا اَرْضُ خُذِيْهِ۔ اے زمین اسے پکڑ لے۔

فرماں روئے کونین کا حکم تھا۔ گیتی کا کلیجہ ہل گیا۔ فوراً زمین شق ہو گئی اور سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک دھنس گیا۔ سراقہ نے ہزار کوشش کی۔ لیکن زمین کی گرفت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ جب عاجز و مجبور ہو گئے تو دو عالم کے تاجدار سے رحم کی درخواست کی۔ سرکار نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور زمین سے خطاب فرمایا۔ اُتْرِ كَيْه :- اچھا اب اسے چھوڑ دے۔

ابھی یہ الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور گھوڑے کا پاؤں باہر نکل آیا۔

مال کا طمع بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دیدہ و دانستہ فریب کا شکار ہونا پڑتا ہے رہائی پا کر جب سراقہ واپس لوٹ رہے تھے تو قصیر کی ندامت کے خوف سے دل ڈوبا جا رہا تھا۔ جیسے یہ میل دو میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ حرص کا شیطان پھر دل پر مسلط ہو گیا۔ اور فریب کی راہ سے تلقین شروع کی یہ واقعہ یونہی اتفاقاً پیش آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیغمبرانہ توانائی کا قطعاً کوئی کرشمہ نہیں ہے۔

چلو واپس چلو۔ سرخ اونٹوں کے انعام کا زریں موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی گرفتاری کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ دل کی آواز پر پھر سراقہ نے گھوڑے کی باگ موڑ دی اور پھر تعاقب کرتے ہوئے سرکار کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار بھی لبوں کو جنبش ہوئی۔ دھرتی کا کلیجہ شق ہوا اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔

پھر سراقہ نے رحمت اکرم کو آواز دی۔ پھر بخشش و درگزر کو پکارا اور پھر رحمت جسم نے احسان کی بارش کی۔ زمین کو اشارہ کیا اور کائنات گیر اقتدار کی گرفت میں سسکتا ہوا دشمن پھر

آزاد ہو گیا۔

اس بار دل کی گہرائی میں پیغمبر کی توانائی کا یقین پیدا ہو چلا تھا۔ بار بار سراقہ سوچ رہے تھے کہ ایک نیاز مند کی طرح زمین کی فرمانبرداری بلا وجہ نہیں ہے۔ کائنات کے خدا کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی معنوی تعلق ضرور ہے۔ لیکن نفس کا شیطان بڑا ہی چاہکدست اور سحر طراز دشمن ہے۔ یہ ظالم ایک ہی لمحے میں دل کی ساری بساط الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سراقہ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ شیطان نے پھر سرگوشی شروع کی۔

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اتنے ہی بڑے صاحب اقتدار ہوتے تو ایک تھکے ہوئے مجبور کی طرح کسے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ خیالی ہیبت کے آگے ہتھیار ڈال دینا بہادروں کا شیوہ نہیں ہے۔ سرخ اونٹوں کا انعام تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دے گا۔

چلو واپس لوٹو۔ اس سے زیادہ زریں لمحہ تمہیں پھر کبھی میسر نہیں آئے گا۔

بالآخر سراقہ پھر شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے۔ پھر تیزی کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھر پیغمبر کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ پھر زمین کا دھانہ کھلا اور سراقہ۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سکنے لگے۔

رحمت یزدانی نے دوبارہ سراقہ کو موقع دیا تھا کہ وہ سنبھل جائیں۔ لیکن جب بار بار کی تنبیہ کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں تو پیغمبر نے خود حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور دلنواز تبسم کے ساتھ سراقہ کو مخاطب کیا۔

سرخ اونٹوں کے فریب میں اپنے نوشتہ تقدیر سے کیوں جنگ کر رہے ہو تمہارا مستقبل میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جن کی زلفوں کا اسیر ہونا مقدر ہے۔ اسی کو گرفتار کرنے آئے ہو۔ کیا اب بھی تمہیں کفر کی شب و بچور کا سوراظر نظر نہیں آیا۔ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے سونے کے کلنگن تمہاری کلائیوں میں چمک رہے ہیں۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ نصیب کی ارجمندی تمہیں ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح میرے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ اور تمہارا سینہ اسلام و ایمان کی دولت لازوال کا گنجینہ بن جائے گا۔

بر صاوت کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے یہ الفاظ سراقہ کے دل میں ترازو ہو گئے۔ تاریخ میں عالمی تسخیر کی یہ پہلی خوشخبری تھی۔ جس کے پیچھے کوئی مادی سامان نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ جیسے جابر و عظیم فرمانروا کے کلنگن دیکھنے والا آج

(۳)

حضرت سراقہ پر جلد ہی صبح سعادت طلوع ہوئی اور وہ مدینے کے دارالامان میں پہنچ گئے اور پروانے کی طرح شمع رسالت کے جلوؤں میں نہاتے رہے۔ کلائیوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن پہننے کا یقین ان کے دل کی دھڑکنوں سے منسلک ہو گیا تھا۔ جس رسول نے جبرائیل و میکائیل۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور حشر و نشر کی خبر دی تھی۔ اس رسول نے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن اسی انتظار میں گزرتے گئے یہاں تک کہ خلافت فاروقی کے عہد زریں میں حضرت سراقہ سخت بیمار پڑ گئے۔ علالت سنگین ہو گئی۔ صورت حال شہادت دے رہی تھی کہ اب چند سانسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکابر صحابہ کرام بالیس کے قریب جمع ہو گئے۔ عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے والوں کے نام کچھ لوگ اپنا پیام و سلام کہنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت سراقہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکراتے ہوئے کہا۔

آپ حضرات اطمینان رکھیں، یہ میرا آخری وقت نہیں ہے۔ اس وقت موت میرے قریب نہیں آئے گی۔ جب تک کہ میں اپنے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن نہ پہن لوں۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے۔ سرکار رسالت کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سراقہ موت کے چنگل سے نکل آئے اور دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں بالکل صحت یاب ہو گئے۔

(۴)

آج مدینے میں ہر طرف مسرتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سجدہ شکر کے اضطراب سے سب کی پیشانیاں بوجھل ہو گئی تھیں۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی لشکر اسلامی کا قاصد فتح ایران کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غلاموں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ آج تاریخ میں پہلی بار کسریٰ کے ایوانوں پر عظمت اسلامی نا پرچم لہرا رہا تھا۔ حق کی سطوت و جبروت کے آگے باطل اقتدار کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایران سے اموال غنیمت بکھیر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کسریٰ کے کنگن

دریافت کیے۔ تلاش کے بعد جب وہ مل گئے تو حضرت سراقہ کو آواز دی گئی اس وقت حضرت سراقہ کا عالم قابل دید تھا۔ ناز سے جھوم رہے تھے۔ فرط مسرت سے چہرہ کھلا جا رہا تھا۔ ارمانوں کے جھوم میں مچلتے ہوئے اٹھے اور فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔

آج حضرت سراقہ کے لئے زندگی کی محبوب ترین گھڑی آگئی تھی۔ جس کی آرزو کو ساری عمر ایمان کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گر تھی۔ اہل مدینہ بھی کیف و مستی کے عالم میں اپنے آقا کا زندہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ امنڈتے ہوئے خوشی کے آنسوؤں میں حضرت سراقہ کی کلائیوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ سر پہ تاج رکھا اور شاہی قبازیب تن کرائی۔ حضرت سراقہ کی شاہانہ سج دھج دیکھ کر اہل مدینہ جذبات سے بے قابو ہو گئے۔ فرط شوق میں منہ سے چیخ نکلی گئی۔

فاروق اعظم بھی عشق و ایمان کی رقت انگیز کیفیت دیکھ کر بے خود ہو گئے۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اس وقت کی بات ہے۔ جب اسلام بے سرو سامانی کے عالم میں تھا۔ ایک یزدانی مسافر نے آرتہ کی عظیم الشان فتح کی خبر دی تھی۔ کل میدان قیامت میں آپ حضرات گواہ رہے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنا کر میں نے اپنے آقا کا فرمان پورا کر دیا۔

سرکار رسالت کی شوکت اقتدار کا یہ نظارہ تاریخ فراموش نہیں کرے گی کہ ایک جنبش لب پر کائنات گیتی کا نقشہ بدل گیا اور عشق رسالت کے فیضان نے عرب کے صحرائینوں کو چشم زدن میں ساری دنیا کا فرمانروا بنا دیا۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا



بارشِ نور

آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفلِ نور سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا تھا۔ جہاں عرش کی قدیل کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا۔ مدینے کے چنستانِ کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے لیکن عندلیبانِ چمن کے فروغِ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سو گوارا داسیوں کی شام ہو گئی تھی۔

بھگی بھگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غمگساروں کے اژدھام سے گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔

مدینے کے مشہور قبرستانِ جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لیکر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لئے سرکارِ خود بہ نفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرشِ خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص محل کے رہ گیا کہ کاش! مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔

عالمِ گیتی کے مسافر کو گلشنِ جنان کی سیر کے لئے اپنی خوابگاہ سے دو قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاریں مرقد ہی میں سمٹ آئیں۔ جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمتِ یزدانی اتر آئی ہو آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دعویٰ ہو سکتا تھا؟ مراسمِ تدفین سے فارغ ہو کر سرورِ کائنات کا شانہٴ اقدس کی طرف واپس ہوئے جو نبی دولتِ سرائے اقبال میں قدم رکھا اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔

رُخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھتی تھیں اسی کے جلوؤں کے سویرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھیں۔

زبان خاموش تھی لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب چل رہا تھا کبھی سرکار کے پیراہن کو دیکھتی تھیں کبھی کاکل ورخ پر نظر ڈالتی تھیں۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سر سے پائیک سرکار کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔

آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔

تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لب ہائے گہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا۔

عائشہ؟ کیا تلاش کر رہی ہو۔ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقعہ پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔

اس سوال پر اُم المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں فرط شوق میں عرض کیا۔
سرکار؟ آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلا دھا بارش ہوئی ہے مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں ہر طرف سیلاب اٹھ آیا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا آخر اتنی موسلا دھا بارش کہاں گئی۔ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے نہ بالوں میں نمی ہے نہ پیراہن ہی تر ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملائی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔

اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا۔ واقعہ غلط نہیں ہے ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے

ہوئے بادل دیکھے ہیں لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا۔

ام المومنین نے عرض کیا۔ آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وحی لے کر اترتے ہیں اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور کے سوال کا جواب دینے کے بعد اُم المومنین گوش بر آواز ہو گئیں۔ نہایت بیتابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھیں کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

عائشہ؟ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برتی ہے۔ جس سے کپڑے بھگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برتی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو نبی تم نے سر پر رکھا عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں خود اس رسول محترم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہو گا۔



نکھرا ہوا سونا

دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سل کے نیچے دبئی ہوئی ایک زندہ لاش غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی!

مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

”شاید تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول کے خلاف صف آرا ہیں۔ یہ بد بخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے۔ اس کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔

میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نژاد غلام ہے۔ عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب صرف میرا ہے۔“

امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا۔

”تمہاری اس فہمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟“ کے تاجر نے پھر سوال کیا۔

”کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا ہے غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کروں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو اہل بیت میں لائق تعزیر ہوں۔

لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لئے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانع نہیں ہے۔“

امیہ نے نہایت تسخیر کے ساتھ حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کا جواب نقل کیا ہے۔
 ”اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے
 سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔
 ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔“
 یہ کہتے، دئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔

پھر وہی دوپہر کا وقت تھا۔ آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالہ کی طرح دہکتے
 ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ
 دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔

ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا۔ چربی پکھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں
 بجا بجا کر بدست شرایوں کی طرح ناچ رہے تھے۔

چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکسٹراڑنے لگی لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم اور
 جور و استبداد کا ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا ہے لیکن خوشنودی
 حق کے لئے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم دیکھا ہوگا۔

تصور جاناں میں آنکھیں بند تھیں اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لئے پوچھ رہا تھا۔
 ”بتا! کیا اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی اب تو
 جھوٹے دین سے توبہ کر لے۔ بلاوجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے!
 کہ اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے
 ساتھ ہے۔ کوئی تیری حمایت کے لئے کھڑا نہ ہوگا۔“

شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدہم آواز فضا میں گونجی۔

”رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں
 کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ ایک حبشی
 غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی کے
 قدموں کو چھو لے میری فتح و سرخروئی کے لئے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔
 وفاداری کی موت ہلاکت نہیں حیات جاوید ہے۔“

چاندنی رات تھی ایک پیکر نور کے دم قدم سے مکے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔

آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ادا بھی بکھیرے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انس میں بھی ایک حسرتناک خوشی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں چمنستان رسالت کے عندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔

آج چہرے پر غیر معمولی اندوہ کے آثار تھے۔ سرکار نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا۔

ابوبکر! آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ خیریت تو ہے؟

ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دلگداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر تنگی پیٹھ نہیں سلا دیا تھا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آنکھیں بند کئے سلگتا رہا۔ اُف کرنا تو بڑی بات ہے جاں نثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگوروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جو دوستم کی یہ ورد انگیز سرگزشت سن کر سرکار کی پلکیں بھیگ گئیں۔

ارشاد فرمایا۔

”ابوبکر! مت گھبراؤ۔ حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جبکہ اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔“

جذبہ نمکسار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا! ”یا رسول اللہ! امیہ اسی لئے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کہ وہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔“

”سرکار! مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔“ خوشی سے چہرہ زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا۔ ”اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زنداں سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد چارہ سازی خدا کے تئیں محبوب ترین عمل ہے۔ لیکن ابوبکر! نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جذبات کی بے خودی میں اٹک بار ہو گئے۔

سرکار! ہم اور بلال دونوں ہی کاکل و رخ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے نہ مال کا کوئی وجود! شرکت تو جب ہوتی ہے کہ جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے آقا؟

میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس سنگدل یہودی سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر ثار کر دوں۔

دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے۔

”میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔“ امیہ نے کہا۔ ”اگرچہ میں ضرورت مند ہوں۔ لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا۔ خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ”میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے زبان ہلائی۔ حضرت ابوبکر نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے طعن کرتے ہوئے کہا۔

ابوبکر! ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پر کھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی بھی حریف نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں تم مات کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے۔ تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے۔ لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ غبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لئے خریدا ہے۔“

معنی خیز تبسم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا۔ ”خوب و نا خوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب سمجھ رہے ہو وہی میرے تئیں ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ

ہوں کے اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔“

جس رُخ زیا کی ایک جھلک نے حضرت بلال کو وارفتہ بنا دیا تھا۔ آج زندگی بھر کے لئے اس کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقائے کونین کے دامن میں انہیں دو جہاں کا سرمدی سکون مل گیا اب وہ سیاہ قام غلام نہیں تھے۔ عالم اسلام کے خور و آقا تھے۔

معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لئے چشم براہ تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لئے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گل گشت کے لئے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لئے ہر طرف حورو غلمان کی صفیں ایستادہ تھیں۔ حضرت جبریل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔

جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ کہ سرکار کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی۔ جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور کو بڑا اچنبھا ہوا۔ جبریل امین سے ارشاد فرمایا۔ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے۔ جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔

جبریل امین نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے۔ جواب دیا معلوم ہے جیسی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔

جبریل امین نے ارشاد فرمایا۔ تجھے مبارک ہو۔ انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رُکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔

باریاب ہونے کی اجازت مل گئی۔ جھک کر سلام عرض کیا۔ جلالت شاہانہ کے آداب بجالائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔

یا رسول اللہ! خدائے کردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آنٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔

یا رسول اللہ! ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دامن خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالہ کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر ہو گا۔ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی۔

الہ العالمین۔ تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز کیا۔

پروردگار! مدت سے ایک آرزو سینے میں چل رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا ذرا اس کی ایک جھلک مجھ دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیا ہے؟

رحمتوں کا دربار جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا۔ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ تیرے جوڑ کی جھلک نظر آئے گی۔

یا رسول اللہ! میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیانے سے جلوؤں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومسی پھلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی۔ جونہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چھین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدھٹل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہا ہو سکے گا۔ جب کہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔

سرکار نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا۔ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے۔ میرے سامنے بیان تو کر۔

اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ سر سے پائیک مجسم سیاہی۔ خوفناک اندھیرا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، ہاتھ اور پاؤں بھی نہایت بھونڈے۔ قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا۔ چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیونکر جوڑا جا سکتا ہے؟

وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار نے سراٹھایا۔ آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں تھیں۔ ارشاد فرمایا۔

تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا۔ ایک مومن و فاکیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے۔ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے اور سن لے!

میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فرداے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حورانِ خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفٹنگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے وہ حسن مجروح کا تماشا کی ہے۔ فردوس کا حکم وہ کیا خاطر میں لائے گا۔ اپنے جلوؤں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر ہو سکتا ہے جس دن ستر ہزار نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے۔ میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔

سرکار کا ارشاد سن کر وہ اپنے تئیں جذبات سے بے خود ہو گئی۔ طلعت جمال کا سارا شمار اتر گیا۔ اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی۔

سرکار! میری معذرت قبول کی جائے میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ مجھے وہی سیاہ قام بلال پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کا دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

عشق کار ساز! تیری دہائی! ایک سیاہ قام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا
 دیا رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے! تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی
 قربان ہے تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے!
 مسلمانوں کے سید و سرور بلال! اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی
 انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے۔ ایمان و یقین کی حرارت
 کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا۔ پھر دنیائے
 اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔



اذانِ بلالی

یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شہستان و جود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا
مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رُک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل
مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔
یا رسول اللہ! آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب
سے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے بچے کئی کئی بار سو کر جاگے اور جاگ جاگ کر سوئے
لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔

لوگ عرض مدعا کر رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا۔ پروں کی آواز فضا میں
گوںجی۔ پلک جھپکنے پر جبریل امین سامنے کھڑے تھے۔

یا رسول اللہ! عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جس کے
قبضہ میں سورج کی باگ ڈور ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو
آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے تاہنوز مدینے سے اذان
کی آواز عرش تک نہ پہنچی ہے۔

ارشاد فرمایا۔ اذان تو ہو گئی۔ البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی
درخواست پر آج سے ایک خوش الحان موذن مقرر کیا گیا ہے۔

جبریل نے عرض کیا۔ دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال
اذان دیے ہیں۔ یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی
آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس لئے جب تک وہ اذان نہیں دیں

گے۔ مدینہ کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔

حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جونہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔

اس دن ہر کہہ لہ دمہ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے اور فیضان نبوت کے بل پر ایک نحیف و نزار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔

حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی جب جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمالیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لئے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے بلا آخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملکِ شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔

ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا۔

بلال! تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت افاق و خیزاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے

گا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔

کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جاں نثاروں میں بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہوئے روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ غم سے سینہ دھکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔

اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن ”یا محمد“ کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا اٹھل پٹھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لئے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں فرمایا! وہ زمانہ پلٹا لاؤ۔ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔

جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام عالی مقام کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لئے تیار ہو گئے۔

جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔ آہ و فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کس نے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال تو آ گئے۔ ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لئے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔

حضرت بلال کی یہ پہلی آذان تھی جب حضور کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق ال گیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا۔ پھر عشق کی دبی ہوئی

چٹکاری جاگ اٹھی پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے۔ دل کا زخم رستا رہا۔ غم فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

آہ! کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک جہشی نژاد غلام کی۔ جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لیا۔ جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا۔ لیکن حسب میں ملت اسلام کا آقا کہلایا۔

اے خوش نصیب! کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مشیت کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عننا۔



پیکر وفا

چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا۔ پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی آسمانوں کے درتے کھل گئے تھے۔ فضا بے سیٹ میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔

اچانک اسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا۔ شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔

میںخانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب جھلکی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔

یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ عشق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی۔ سرور کونین کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا۔

”گلشن اسلام کی شادابی کے لئے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں“

کلمہ حق کی برتری کے لئے تڑپتی ہوئی لاشوں کی خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو! مبارک ہو۔ خون کا آخری قطرہ جو نکلتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔

ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ چھ سال کے یتیم

بچے کو گود میں لئے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال کی آواز سن کر چونک پڑی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ ابھر آئی۔ آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئیں۔ چھ سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں رو رہی تھی۔ فرط محبت میں بچے کو سینے سے چمٹالیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔

گلے میں بائیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا!

”ماں کیوں رو رہی ہو کہاں تکلیف ہے تمہیں؟“

آہ! ایک نابمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے۔ یہ نہیں بتایا جاسکتا۔ لیکن اس کی کک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔

پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے۔ کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔

بچے کے اس سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا رھارہ پھوٹ پڑا۔ گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔

”بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔“

ماں نے بچے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میرے لعل مت روؤ۔ قیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ تمہارے گریہ درد سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی خیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ مت روؤ میرے لعل!

گھر بچہ روتا رہا وہ بضد تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ بلا خراپے بچے کے لئے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔

بیٹا! ابھی حضرت بلال وہ بلال جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا ٹکڑا ہوا سونا کہتے ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے

جانناز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آج غیرت حق کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسموں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔

کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ مادران ملت جو سپیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نو جوان صاحبزادوں کا نذرانہ لئے ہوئے سرکار رسالت میں حاضر ہوں گی۔

آہ! کتنی قابل رشک ہوں گی ان کی یہ التجا یا رسول اللہ! ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہیں۔ اسی آروز میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔

یا رسول اللہ! ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرمائیں۔ سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے۔

یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ آواز بھر گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر چل گیا۔

ماں نے کہا! بیٹا ضد نہ کرو۔ دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش! آج میری گود میں بھی کوئی نو جوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق لئے رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔

افسوس! کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا۔ پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشمے سے آنسو ایلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں! تمہاری گود تو خالی نہیں ہے۔ رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی۔ تم مجھی کو لے کر چلو۔

ماں نے چکارتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا! میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں اٹھنے کے لئے جوانوں کے کس بل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں۔ وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شکاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لعل وہ قتل و خون کی سر زمین ہے۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے۔

بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کمسنی کے باعث ہم میدان کارزار
سے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لئے تو عمر کی کوئی قید
نہیں ہے۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول فرمائی تو زہے نصیب! اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا
کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لئے جان کی نذر پیش کرنے سے ہم محروم رہ
گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی بہر حال جان ہے اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی
نقمت میں کوئی فرق نہیں۔

ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تھکنے لگی۔ اس کم سنہ میں
ایسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے۔ جو قیہوں کی نگران ہے۔ سپیدہ سحر
سودار ہو چکا تھا۔ جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لئے مسجد نبوی کی طرف تیزی
سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لئے ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح
بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ عائشہ کے خورشید کی پہلی کرن کے نظارہ کے لئے ہر نگاہ اشتیاق آرزو
کی تصویر بنی ہوئی تھی۔

نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو
نوجوان محار جنگ پر جانے کے قابل تھے۔ انہیں لے لیا گیا۔ باقی واپس کر دیے گئے۔
انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون
پر نظر پڑی جو چھ سال کا بچہ لئے کنارے پر کھڑی تھی۔
سرکار نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا۔

”اس خاتون سے جا کر دریافت کرو۔ وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔“

حضرت بلال نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا۔
”در بار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں۔“

خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے
اعلان سن کر مرادل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا۔ جس کے خون کی اسلام کی
بارگاہ میں نذر پیش کرتی۔ چھ سال کا یہ یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام
شہادت سے سیراب ہوا۔ یہی کل میری متاع زندگی ہے۔ جسے سرکار کے قدموں پر نثار

کرنے لائی ہوں۔

حضرت بلال نے بچے کو گود میں اٹھالیا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرہ کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آغوشِ رحمت میں جگہ دی۔ سر پر ہاتھ پھیرا۔ پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔

”میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے تم ابھی کمسن ہو۔ محاذِ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو۔ بڑھو اور کلشنِ اسلام کی بہار بنو جب تمہارے بازو میں کس بل پیدا ہو جائے گا تو میدانِ جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔

بچے نے اپنی تزلزل ہوئی زبان سے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں۔ جب آگ دہکنے لگتی ہے۔ تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔

یا رسول اللہ! میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن کیا میدانِ کارزار گرم کرنے کے لئے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جاسکتا۔ اگر آپ مجھ اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی۔ وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہے کہ آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نذر کر کے سرکار کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔

جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا۔ سارے مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ سرکار بھی فرطِ اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔

حضرت بلال سے فرمایا۔ جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو۔ کہ اس کی منہی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ قیامت کے دن وہ غازیانِ اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔

آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے اور خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔



شادی کی پہلی رات

حظله، ایک نکیل و خوبرونو جوان، حسن و زیبائی کا ایک گل رعنا اور عشق و ایمان کا ایک دکھتا ہوا لالہ اپنے قبیلہ میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔

بارحیا سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوڑ کی شراب ٹپکتی۔ عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عقیف و پاکبار حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے؟ ایک حظله اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امید گاہ بن گئے تھے۔ انھیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لئے اس گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے۔ مے کدہ عرفان کا بادہ نوش حسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکتا بھی اپنی بے نیاز یوں کی توہین سمجھتا ہے۔

یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حظله کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ جہاں دامن تر کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لئے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔

اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حظله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزوئے شوق کا اظہار کیا۔

”میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول! تمہاری شادی کے لئے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آرہے ہیں۔ اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔“

بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لئے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لئے خالی نہیں ہے۔ چراغِ قدس کے پروانے کو اسی شہستان میں رہنے دو ماں! جہاں دونوں جہان کی فراغت نصیب ہے بے نیام تلواروں اور لالہ کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمان وفا کی طرف مت لے جاؤ۔

شہنشاہ کونین کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم؟ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔

ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا! رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز رہنے کے لئے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لئے میں نے کتنی صعوبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے اور کتنے ہی آلام کی بھٹی میں سلگ سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔

اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔“

”فیروز مند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب میرے اندر مزید انکار کی جرات نہیں ہے۔ مادرِ مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکیں۔ میری طرف سے اجازت ہے“

چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حظلہ جیسے نکیل و خوبرونو جوان کو پانے کے لئے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا وہاں ایک آرزو پر دان چڑھی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حظلہ کے لئے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پر نور فضا میں حضرت حظلہ دولہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔

آج شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم

میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں خیرہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ دو عفت ماب روحوں کی ملاقات کا عالم کیا تھا۔ کون بتائے؟

البتہ تاریخ کے حوالہ سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بھیک جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حظلہ چونک اٹھے نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا۔

کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آرہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے۔ سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔

اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہو گئے۔ اب حضرت حظلہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دولہن کو دیکھا۔ حسرتناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے۔

جان آرزو! میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور معرکہ کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا۔ اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آگئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو وقت بہت نازک ہے۔

یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند جملے ادا کر سکی۔

میخانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے۔ زحمت نہ ہو تو رسول کو نین

کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیران بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تابندہ نازاں رہوں گی۔“

حضرت حظلہ نے دو لفظوں میں جواب دیا۔ سردی اعزاز کے استحقاق کے لئے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا ہے۔

یقین رکھو! گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں۔ تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو خدا تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔“

یہ کہتے ہوئے حضرت حظلہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کو بوسہ دیتی رہی۔

رات کے پچھلے پہر جاں نثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں معرکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جانِ رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناقہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے رُبخ زیا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوکتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔

میدانِ جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبلِ جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکرِ باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حظلہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالمِ جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا اور زہر میں بجھا ہوا ایک تیران کے جگر میں آ کر پوست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو کے رہ گیا۔ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا۔ کلمہ حق کی سربلندی کے لئے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحے بعد روح عالمِ بالا کو پرواز کر گئی۔

دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح نصیب

ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں۔ تو حضرت حظلہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ حضور نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

حظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی بال بھیکے ہوئے تھے خون آلود پیراہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔

مدینہ پہنچ کر جب گھر والوں نے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے چلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہیں دی۔ غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعہ اتارا گیا۔

اسی دن سے حضرت حظلہ کا لقب ”رگاہ رسالت سے“ ”غسل ملائکہ“ قرار پایا زندہ باد! اسلام کے قابل رشک فرزند! زندہ باد!



شادی کی ترنگ سے میدان جنگ تک

جہش کی تپتی ہوئی خاک سے اڑ کر جن ذروں نے عرش کی بلندیوں پر اپنا آشیانہ بنایا تھا ان میں ایک جہش نژاد عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔

غلامی کی زندگی نے ان کے دل کی خاکستر کو اس طرح روند ڈالا تھا۔ کہ ایک بجھے ہوئے چراغ کی طرح ان کی زندگی کی ساری امنگوں نے دم توڑ دیا تھا۔

کہتے ہیں کہ زلف جاناں کی جو خوشبو مہینے سے اڑ کر خطہ زمین میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن انہیں بھی محسوس ہوئی کسی راہ گیر نے ان سے کہا۔

”تم نے کچھ سنا ہے؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لئے مدینہ میں ایک نئی پناہ گاہ کھلی ہے رحمتوں کے پیکر میں آسمان سے کوئی عجیب و غریب انسان اتر رہا ہے دلوں کے کتنے ہی ویرانے اس کے قدم کی آہٹ سے آباد ہو گئے ہیں۔ مظلوموں، زیر دستوں اور مسکینوں کے لئے اس کی شفقتوں کی گود ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ اس کی پلکوں کے سائے میں ہر وقت کام کا دریا لہراتا رہتا ہے اس کی شاداب نگاہیں جلتے ہوئے زخموں کے لئے تسکین کا مرہم ہیں۔ اس کے ہونٹوں کا تبسم بچھی ہوئی خاکستر کے لئے زندگی کی بشارت ہے۔

جلدی کرو! امیدوں کے قافلے زمین کے کناروں سے سمٹتے ہوئے آرہے ہیں۔ تم بھی ان کی اڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ اگر خوبی قسمت سے تم مہینے کے نخلستان میں پہنچ گئے تو تمہاری پامال زندگی جگمگا اٹھے گی۔“

یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں۔ انہوں نے عالم تحریر میں دریافت کیا۔

”کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی سرشت کا کوئی نیا انسان ہو تو البتہ ایسا ہو سکتا ہے اور

ورنہ آج کی بھری دنیا میں مظلوموں اور زیر دستوں کا کون حامی ہے۔ روئے زمین کے جو غم نصیب بیٹھے بول کے لئے ترس گئے ہیں بھلا انہیں شفقتوں کی گود میسر آ سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو بہت اچنبھے کی بات ہے۔“

راہ گیر نے پر جوش لہجے میں جواب دیا۔ ”اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو مدینہ اسی خطہ زمین پر واقع ہے تم وہاں جا کر تجربہ کر لو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانی پیکر میں ضرور ہے لیکن وہ اس دنیا کا انسان نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے وجود کا سررشتہ کسی اور عالم سے ملتا ہے۔“ اس گفتگو کے بعد عبداللہ کے سینے میں ایک ایسی آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے ان کی ہستی کا صبر و قرار چھین لیا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی بیتاب آرزوؤں کی راتیں قیامت کی طرح دراز ہو گئیں۔ ویرانوں سے انس بڑھ گیا آبادیوں سے وحشت ہونے لگی۔ یکا یک ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ملک شام کا کوئی تجارتی قافلہ مدینہ کے نخلستان سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے۔ یہ خبر معلوم کر کے خوشی سے ان کا چہرہ کھل گیا۔ ان کی پیشانی سے بھاشت کا نور ٹپکنے لگا وہ اضطراب شوق کی بے خودی میں اٹھے اور قافلے کی گزر گاہ پر کھڑے ہو گئے کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دور سے انھیں اڑتے ہوئے غبار کا طوفان نظر آیا قافلے کی علامت دیکھ کر ان کی روح پر فرحت و انبساط کے بادل چھا گئے تھوڑی دیر کے بعد قافلے میں شامل ہوتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ غم کا سارا بوجھ اتر گیا۔ شب و روز چلتے چلتے بالآخر ایک دن وہ حجاز کی سرحد میں داخل ہو گئے کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک منزل پر قافلہ کے لوگوں نے مدینے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔

اب وہ اکیلے ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ جذب شوق کے علاوہ اب کوئی ان کا شریک سفر نہیں تھا متواتر کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے ان کے دل نے بے ساختہ آواز دی شاید یہی مدینے کا وہ نخلستان ہے جس کی گود میں مظلوموں کی پناہ گاہ ہے اور کچھ فاصلہ طے کیا تو مدینے کی پہاڑیاں چمکنے لگیں۔ چند قدم چل کر اب مدینے کی وہ آبادی نظر کے سامنے تھی جہاں پہنچنے کے لئے دل میں جذبہ شوق کا تلاطم برپا تھا۔

ایک وارفتہ حال دیوانے کی طرح جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے گلی کوچوں میں لوگوں سے اپنی منزل مقصود کا پتہ پوچھنا شروع کیا ان کی بے قراری دیکھ کر ایک صاحب

انہیں مسجد نبوی شریف کے دروازے تک پہنچا کر واپس ہو گئے، مسجد کے فرش پر کونین کے شہنشاہ مدینے کے مسکینوں کو اپنی آغوش رحمت میں لئے بیٹھے تھے۔

حضرت عبداللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی جمال و نور کی زیبائی خود آواز دے رہی تھی کہ آؤ! کعبہ مقصود یہاں ہے۔ جیسے ہی چہرہ انور پر نظر پڑی تو دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ جذبہ شوق کی بے خودی میں آگے بڑھے اور قدموں پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں کی راہ سے قلب و روح کا سارا غبار دھل گیا۔ روئے زمین کی روندی ہوئی ایک مشت خاک اب اس قدم کے نیچے آگئی تھی جو کائنات کی سب سے باعزت جگہ تھی۔

مدتوں کی ایک پیاسی روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو چکنے کے بعد اسلام و ایمان کے سر رشتے سے ہمیشہ کے لئے منسلک ہو گئی۔

اکرام و آسائش کے باغ فردوس میں پہنچ کر بالکل پہلی مرتبہ وہ روحانی مسرتوں کی ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے۔ اب عبداللہ اسود کسی رہگذر کا سنگریزہ نہیں تھے، سینہ صدف میں پرورش پانے والے گوہر کی طرح محفوظ تھے جدھر نکل جاتے ایسا لگتا کہ شفقت و اعزاز کی ہر آغوش انہی کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ کبھی جس کا چوکھٹ پر کھڑا رہنا باعث عار تھا آج اسے پلکوں پر جگہ مل گئی تھی۔ آسمان سے اترنے والے اس ”نئے انسان“ کی آواز میں کتنا حیرت انگیز اعجاز تھا جس نے پلک جھپکتے ہزاروں برس کا مزاج بدل دیا تھا۔ مدینے میں انسانی زندگی کا جو نیا پیمانہ رائج تھا اسے دیکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ حیران رہا کرتے تھے۔

بارگاہ رسالت کی شفقتوں نے انہیں اس طرح سینے سے لگا لیا کہ وہ اپنی پامال زندگی کا سارا غم بھول گئے۔ مسجد نبوی کا محن ان کی ساری امیدوں کا آشیانہ بن گیا تھا، کونین کی نعمتوں کے مرکز میں ان کے لئے کس بات کی کمی تھی۔ ہر وقت عشق و عرفان کی سرمستی میں وہ نہال و مسرور رہا کرتے تھے۔

ایک دن شام کا خوشگوار موسم تھا۔ زلف معنبر کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک اٹھا تھا۔ جلوؤں کی بکھری ہوئی چاندنی میں درود یوار چمک رہے تھے اسی عالم میں حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی حاضری کا انداز بالکل نرالا تھا۔ منہ کھول کر شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سرکار نے بھی ان کے چلتے ہوئے شوق کا عالم محسوس فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔ کہو کیا کہنا چاہتے تھے؟

یہ سننا تھا کہ اچانک صبر و ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے بھی کہاں؟ آخر اس سرکار کے سوا اس گیتی پر اشکوں کے گوہر کا شنا سا بھی کون تھا۔ سرکار نے اپنی آستین میں ان کی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت روؤ! رحمت و کرم کا آئینہ بڑا نازک ہوتا ہے میں تمہارا معروضہ شوق سننے کے لئے ویسے ہی تیار ہوں اپنا مدعا بیان کرو۔ اپنے دل گیر جذبات پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی تمنا کا یوں اظہار کیا۔

”سرکار کے قدموں کی پناہ میں آ جانے کے بعد زندگی کی ساری آرزو پوری ہوگئی آخرت کا بھی کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے لئے سرکار کے دامن کا سہارا بہت کافی ہے۔ اب زندگی کی رفاقت کے لئے عہد شباب کی صرف ایک تمنا باقی رہ گئی ہے اور وہ شادی۔ حضور! کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا لیکن کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام حبشی جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی کمائی ہے نہ دھماکی ہے ایسے خانہ بدوش شخص کو کون اپنی لڑکی دے گا؟

حضور کی چوکھٹ سے لگے رہنے کے علاوہ میرے پاس ہنر ہی کیا ہے کہ میں زندگی کے اسباب فراہم کروں۔ ساری کونین تو اسی سنگ در پر سمٹ آئی ہے۔ اب میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں سرکار کے دست کرم میں کیا نہیں ہے۔ قسمت کی یہ بچ بھی کھل ہی جائے گی۔ بس ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔

کچھ اس دردناک عجز و نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرگزشت غم بیان کی کہ رحمت مجسم کو پیار آ گیا۔ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اپنے دل کو آزر دہ نہ کرو۔ تمہارے رشتہ نکاح کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ جاؤ! بنو کلب کے قبیلے کے سردار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔“

یہ حکم سنتے ہی حضرت عبداللہ کا چہرہ فرط مسرت سے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں وہ اپنی لڑکی دینے سے کیونکر انکار کر سکیں گے۔ انہیں سب سے زیادہ خوش اس بات ملی تھی کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ بارگاہ رسالت سے ان کے عقد نکاح کے لئے نامزد کی گئی تھی۔

دوسرے دن وہ علی الصباح خوشی کے ترنگ میں اٹھے اور سیدھے بنو کلب کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کامیابی کی نشاط میں ان کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ انہیں زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ خوشی کا یہ لمحہ میسر آیا تھا۔

قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جواب دیا۔ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں سردار قبیلہ کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی دلوں کی سرزمین ہل گئی۔ سارے گھر میں خوشی کا ایک تہلکہ مچ گیا۔ دوڑے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اے زہے نصیب! میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہوگی۔

قاصد کو اعزاز کی مسند پر بٹھایا اور خود گوش بر آواز بن کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کی مستورات اور فرخندہ فال صاحبزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔

انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا یہ پیغام سنایا۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لئے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔

یہ سن کر سردار قبیلہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک عجیب کشمکش کا عالم ان پر طاری ہو گیا۔ ایک آقائے کونین کا حکم تھا جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جاسکتا تھا اور دوسری طرف اپنی سہرا باق بیٹی کا مستقبل جسے نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی شش و پنج کے عالم میں وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔

حضرت عبداللہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اس لئے اب میں واپس جا رہا ہوں۔ سرکار کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔

یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک اضطراب انگیز کیفیت میں آواز دی۔

”رسول عربی کے معزز قاصد واپس لوٹ آؤ! اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے

نام ہے میرے باپ کے نام نہیں۔ آزرده خاطر ہو کر نہ جاؤ مجھے یہ رشتہ منظور ہے“

یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رُک گئے۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ اس کے بعد صاحبزادی

اپنے باپ سے مخاطب ہوئی۔

”اباجان! آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور

کہاں مل سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی

لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے۔ یہاں کی جھوٹی عزت و شہرت

میں کیا رکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے لئے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم

ہے کہ خدا کے حبیب کی نگاہ انتخاب ہمارے گھر پر پڑی ہے۔ غلاموں کی بھری آبادی میں

لڑکیوں کی کیا کمی تھی۔ لیکن یہ تو ہماری ہی قسمت ہے کہ سرکار کی نوازش بے پایاں کے ہم

مستحق ہوئے۔“

بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکتا بدل گیا جیسے کوئی

چونک کر کسی پر پیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد

سے توجہ ہوئے۔

”سرکار سے کہہ دینا کہ فرمان عالی میرے سر آنکھوں پر ہے۔ وہ جب چاہیں میں

عقد نکاح کی مہم سرانجام دینے کے لئے حاضر ہوں۔

یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرتوں کے خمار میں

جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کی طرف واپس لوٹے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی

یہ بشارت سنائی۔

حضور! قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا۔ اس کی بیٹی بھی سرکار کے حکم کی تعمیل

میں سر بکف ہے۔“

یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب دیر کیا ہے جاؤ نکاح کا انتظام کرو بازار سے

ضروری سامان خرید لاؤ۔ سامان کی خریداری کے لئے سرکار رسالت نے انہیں چند درہم

عنایت فرمائے اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔

راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی اسے خوشی کی ترنگ میں خبر سناتے ہوئے کہا۔ ”سرکار نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے۔ نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔“

بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا ایک منادی کی آواز کان میں گونجی۔

”میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جاں نثاروں کو آواز دی ہے۔ سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالو چلو۔ خون سے بھیگی ہوئی سرزمین پر جنت کے اترنے کے دن آگئے۔ خوش بختیوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلوؤں کا تماشا دیکھے۔“

یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ چوہک گئے فیصلہ کرنے میں ایک لمحے سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہوئی انہوں نے سوچا۔ مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے۔ دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو زندگی میں مسرت و نشاط کی سینکڑوں شاخیں آسکتی ہیں اور خدا نخواستہ اسلام ہی کا سورج گہن میں آگیا تو شادی کے لمحات کو خون آلود ہونے سے کون بچا سکتا ہے۔

یہ سوچ کر فوراً انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور جو پیسے وہ شادی کا سامان خریدنے کے لئے لائے تھے ان سے سامان جنگ خرید لیا اور چپکے سے لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ اس اندیشے سے کہ کہیں سرکار ہمیں واپس نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنا سارا جسم کالے کبیل میں ڈھانپ لیا تھا تا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اور اسی ڈر سے جب تک میدان جنگ تک نہیں پہنچ گئے۔ لشکر کے بیچ میں نہیں آئے کنارے کنارے چلتے رہے۔

اسلام کی زندگی کے لئے ذرا سرفروشی کا یہ اشتیاق تو ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اس لئے چھپ رہے تھے کہ کوئی انہیں میدان جنگ کی طرف جانے سے نہ روک سکے اور آج کا نوجوان اس لئے سر جھیلنے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اسے میدان جنگ کی طرف نہ کھینچ کر لے جائے۔

میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں طرف کی فوجیں صف آرا ہو گئیں۔ جب خوب گھمسان کارن چھڑ گیا تو حضور نے دور سے دیکھا کہ کالے کبیل میں لیٹا ہوا کوئی شخص بجلی کی طرح تلوار چلا رہا ہے۔ صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ باقی سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ حضور نے

ارشاد فرمایا۔

ہاتھ کی گردش کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عبداللہ اسود ہیں۔ لیکن وہ یہاں کیسے؟ وہ تو مدینے میں نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ چند صحابہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ عبداللہ اسود ہی معلوم ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کی فتح مبین پر جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کی لاشیں الگ الگ کی جائیں۔ چند شہدائے کرام کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو دیکھا گیا کہ عبداللہ اسود کی گردن پر خون کی ایک سرخ لکیر پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اور پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا۔

ان کی نعش جیسے ہی نظر کے سامنے آئی۔ سرکار مدینہ آبادیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا۔ ”میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ اسود کے لئے جنت کو دولہن کی طرح سنوارا گیا ہے۔ حوران جانا انہیں اپنے جہرمٹ میں لئے ہوئے عالم جاوید کا دولہا بنا رہی ہیں



بیتاب آرزو

مدینے سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر اُحد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست معرکہ تھا۔ دنیائے کفر کے سارے سوراخ آہن و فولاد کے مہیب ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ٹنڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔

ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔

ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی جو نہی سویرا ہوا چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ و بازار گونج اٹھے۔

ہر جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بدعا اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔

رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے لنگڑے تھے وہ بھی محاذ جنگ پر جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تم معذور ہو چلنا پھرنا مشکل ہے تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے چار بیٹے تو جا ہی رہے ہیں اب تمہارے ذمہ اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے۔

انہوں نے جذبات سے بے خود ہو کر جواب دیا۔

”اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لئے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔“

میرے لئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔“

اسی بیتابی عشق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا:۔

”جان بچا کر چھپنے والوں کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اُحد کی طرف جاؤ آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔“

یہ طعنہ ایک تیز نشتر کی طرح جگر میں پوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تلوار اٹھائی نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رقت انگیز دعا مانگی۔

اللهم لاتعدنی الی اہلی

اے اللہ! اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائیو!

اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے۔ سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، صلوٰۃ و سلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ چند لمحہ انتظار کے بعد جب سرکار متوجہ ہوئے تو عرض کیا۔

یا رسول اللہ! سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے میں بھی شامل ہو جاؤں۔“

سرکار نے ارشاد فرمایا

تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تم معذور ہو۔ میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا۔

”حضور! بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم کا ہے اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔“

پاؤں تو ٹوٹ ہی چکا ہے اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا حضور:

مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا لیکن اپنے مولیٰ کی خوشنودی کے لئے شہید تو ہو سکتا ہوں؟ ویسے میں معذور ضرور ہوں لیکن گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑپنے کے لئے معذور نہیں ہوں آقا!

عالم قدس کا جمال اب ایک لمحہ کے لئے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ سروبال دوش

بن گیا ہے سرکار! میری درخواست قبول کر لیجائے لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اجازت عطا فرمادیں۔“

بالآخر ان کے پر شوق اصرار پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمادی اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے، ترپتے، اچھلتے، لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی۔ اور نہایت بیتابی کے ساتھ اس ساعت از جہند کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ابدی نیند کے لئے پلک جھپکے اور دوسرے ہی لمحہ آنکھ کھلے تو فردوس کا دلکش نظارہ سامنے ہو۔

اُحد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا اور کہسار کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھیں، کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ محرم آنکھوں پر غیب کے چہرے آج بے نقاب ہو گئے تھے۔ مخفی حقیقتیں اب حجابات کے پیچھے نہیں تھیں بر ملا نگاہوں کی زد پر تھیں۔

اسی عالم رنگ و نور میں مجاہدین کی صفیں آراستہ ہوئیں۔ ہیبت جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔

وہ تماشا بھی قابل دیدنی تھا، جب لشکر کا والی، قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اپنے جان ثاروں کی فلک پیاہمتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔

تھوڑی ہی دیر کے بعد نقارہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے۔ تلواریں چمکیں، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔

اسی عالم قیامت خیز میں حضرت عمرو بن جموح کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جنت کا مشتاق ہوں۔ صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ یہ سینہ ہے، یہ سر ہے یہ گردن ہے، آؤ مجھے گھائل کر دو، میں زخمی ہو کر ترپنا چاہتا ہوں، دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا چکا ہوں۔ اب میں خود سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ بس ایک جام کوثر کا انتظار ہے۔

اس عالم شوق میں مچلتے، اکڑتے، سینہ تانے، رجز پڑھتے، آواز لگاتے، چلے جا رہے

تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔

گھائل ہو کر گر پڑے رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا ایک لمحہ کے لئے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔

قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔

شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی ”دختران قدس“ کے جھرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔

جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرو بن جموع کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان اُحد میں آئیں۔

چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا:

عمرو تمہیں سردی نعتوں کی یہ سرخروئی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا پیارے اسی کے لئے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔

مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے۔ خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انھوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جونہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھیں کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔

دوڑی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔

حضور نے ارشاد فرمایا۔

اونٹ کو یہی حکم ہے کہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ کیا دم رخصت عمرو بن جموع گھر سے کچھ کہہ کر چلے گئے تھے۔

ہاں! قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی۔

اللّٰهُمَّ لَا تُعَذِّبْنِي إِلَى أَهْلِيْ :- یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائیو۔

ارشاد فرمایا:-

ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جاسکتی۔ انہیں یہیں

دفن کر دو۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔

تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا

سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے

آج بھی اُحد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے۔ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔

چند روزہ زندگی کے معاوضہ میں دائمی زندگی کا کاروبار یہیں سے ہوتا ہے۔



محفل حرم

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ خرید و فروخت کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ گھوڑا بیچ کر اعرابی مکر گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تیری نیت خراب ہو گئی ہے رسول کی زبان سے سچ کے سوا دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ اس نے جواب دیا سچ ہے تو گواہ پیش کرو۔

لیکن صحابہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے اس لئے گواہی نہ دے سکے۔ اتنے میں کہیں سے حضرت خزیمہ آ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا سرکار کے ہاتھ بیچا ہے۔ اعرابی خاموش ہو گیا اور گھوڑا حوالے کرنا پڑا۔ سرور کائنات حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا۔ ”خزیمہ! تم واقعہ کے وقت موجود تھے ہی نہیں۔ تم نے شہادت کیسے دی؟

خزیمہ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان حق ترجمان سے سن کر جب آسمان کی خبر پر ہم شہادت دیتے ہیں تو زمین کی خبر پر ہمیں شہادت دینے میں کیا تاثر ہو سکتا ہے؟ یقین کا چشمہ حقیقی آپ کی زبان ہے۔ ہماری آنکھ نہیں!

سرکار یہ جواب سن کر بے حد مسرور ہوئے اور انعامِ خسروانہ کے طور پر اس دن سے یہ قانون بن گیا کہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا۔ مقدمات پیش ہو رہے تھے مظلوموں کی دادرسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی۔

امیر المومنین! اس ظالم سے ہمارا حق دلویا جائے۔ یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل

ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔

نوجوان نے بیان دیا!! میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا۔ باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی۔ میں نے بھی طیش میں پتھر کھینچ کر اسے مارا۔ میرا ارادہ۔ اس کے قتل کا نہیں تھا۔ لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔

امیر المومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا۔ چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا۔ اس لئے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا۔ خون کا بدلہ خون! نوجوان نے کہا۔ اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے۔ باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالہ کیا تھا۔ میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس لئے مجھے تین دن کی مہلت دی جائے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کیا جائے۔

امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا۔ عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی۔ ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسا نہ تھا۔ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی۔ امیر المومنین! میں اس جوان کا ضامن ہوتا ہوں اسے تین دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔

آج تیسرا دن تھا۔ دربار خلافت کچھا کچھ بھرا ہوا تھا۔ دونوں مدعی بھی حاضر تھے۔ حضرت ابوذر غفاری بھی موجود تھے۔ لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔

مدعیوں نے کہا۔ ابوذر؟ ہمارا مجرم کہاں ہے۔ جواب دیا۔ تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو۔ اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لئے میری گردن حاضر ہے۔

حضرت ابوذر کے اس جواب پر صحابہ آب دیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ نو عمر مدعیوں سے کہا۔ تم خون بہا قبول کرلو۔ مدعیوں نے جواب دیا۔ ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔

امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ گرد و ہٹی تو پسینے میں شرابور مجرم (نوجوان) کھڑا تھا۔ تماشاویوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی پہلے ایک بات سنو۔ تمہیں تین دن کی مہلت ملی۔ تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سزائے موت سے بچنے کے لئے تم فرار بھی ہو سکتے تھے؟

نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سایے میں کھڑے ہو کر جواب دیا۔

امیر المومنین! میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہ سہی۔ وہاں سزا ملتی۔

لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبہ چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا۔ لیکن عہد شکنی کا دھبہ اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لئے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے۔ آنکھیں اٹکبار ہو گئیں اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔

اب امیر المومنین حضرت ابوذر غفاری سے مخاطب تھے۔ ”ابوذر تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی نہ اس کے پتہ نشان سے تم واقف تھے۔ ایک رہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا؟ اگر خدا نخواستہ وہ نہ آتا تو آج ابوذر کے ماتم میں مدینہ کا کیا حال ہوتا؟“

حضرت ابوذر غفاری بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ”امیر المومنین!“ ایک ابوذر نہیں! ایک ہزار ابوذر مدنی سرکار کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔

ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے سوچا! وقت کا

قافلہ گزر جائے گا نشان قدم باقی رہے گا۔ کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غمگساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو تین دن کے لئے پناہ دے دیتے۔

امیر المومنین! کیا یہ طعنہ کہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا۔ ہمیں مرجانے کے لئے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابوذر غفاری جواب دے کر جوٹھی بیٹھے۔ دونوں مدعی کھڑے ہو گئے۔

امیر المومنین! تاریخ اسلام کی شاہراہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔

”امیر المومنین! گواہ رہے! کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں۔“ مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی، مبارک باد کے شور سے گونج اٹھی۔ ہر آنکھ خوشی میں پرخم تھی۔ ہر چہرہ شگفتہ تھا۔ ہر نظر محمور تھی اور ہر دل بادۂ مسرت میں سرشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا۔ حیرت میں دیکھتا چلا گیا۔ کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آسکے گا۔

ردائے لالہ و گل پردہ مہ و انجم
جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے



آرزوؤں کا انتخاب

مدینے کی وہ رات جس کی صبح کو معرکہ بدر کے لئے روانگی تھی، عید کی شب سے کم نہیں تھی۔ آرزوؤں کی ترنگ میں روئیں اور طرح شرابور تھیں کہ ہر آنکھ سے کوثر کی شراب کا پیمانہ چھلک رہا تھا۔

کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر دوسرے فروش نو جوان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید طلوع ہونے والی صبح تمنا کی خوشی میں ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ عالم شوق کی سرمستی میں گفتگو اتنی والہانہ ہو گئی تھی۔ کہ کبھی کبھی پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ جذبات کے تالطم میں بے خود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا طلوع سحر میں اب چند ہی گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ محویت شوق کا یہ خاموش عالم شاید پھر نہ مل سکے اس لئے آؤ کل کے پیش آنے والے معرکہ جنگ کے لئے اپنے رب کے حضور میں اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعا مانگی جائے۔

یہ سنتے ہی فرط مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اٹھا۔ والہانہ جذبہ عشق میں اس پیش کش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جواب دیا، نہال آرزو کی شادابی کے لئے اس سے زیادہ کیف بارلحہ اور کیا مل سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ اب دل کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا روح کی گہرائی سے لے کر پلکوں کو، چلمن تک ساری ہستی ایک پرسوز کیف میں ڈوب گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہی دعا کے یہ الفاظ رات کی خاموش فضا میں بکھر گئے۔

خداوند! کل میدان جنگ میں دشمن کا سب سے بڑا سورا اور جنگ آ زودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں پہلی ہی ضرب میں اس کا تلوار

کی دھار موڑ دوں اس کے نیزے کے ٹکڑے اڑا دوں اور اپنی ٹوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر ترپتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اس وقت جبکہ وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو میں اس کے قریب جا کر آواز دوں کہ تیرے کفر کا غرور ٹوٹ گیا۔ جس غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا۔ دیکھ آج اس نے بادلوں کی اوٹ سے اپنے جلال و جبروت کا لشکر اتار دیا ہے۔ آج اس کے محبوب پیغمبر کی فیروز مند یوں کے ظہور کا دن ہے۔

پھر اس کا سر قلم کر کے ہمیشہ کے لئے ذلتوں کی خاک پر روندے جانے کے لئے پھینک دوں۔

اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا کا آغاز یوں کیا۔

اللہ العالمین! میری آرزو یہ ہے کہ کل کے پیش آنے والے معرکہ جنگ میں میرا مقابلہ دشمن کے کسی جیوٹ اور دلیر سپاہی سے ہو وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے مقابلے پر آئے۔ شوق شہادت میں مدہوش ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں۔ وہ میرے اوپر حملہ کرے۔ میں اس کے اوپر وار کروں لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں۔ میرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے۔ اسلام کا عشق میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے۔ یہاں تک کہ میں بیتاب ہو کر زمین پر گر پڑوں۔ دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میرا سر قلم کر لے میری ناک کاٹ دے میری آنکھیں نکال لے میرے چہرے کی ہیت بگاڑ دے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔

اس کے بعد میں اس حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو آنکھیں نکال لی گئی ہوں کان جدا کر دیے گئے ہوں زخموں کے نشانات سے چہرے کی ہیت بگاڑ دی گئی ہو۔ پھر سر سے پائے خون میں نہائے ہوئے اپنے ایک مسکین بندے کو اس حال میں دیکھ رونو دریافت کرے۔

یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے میری دی ہوئی آنکھیں کیا ہوئیں کان اور ناک کہاں پھینک آئے۔ تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا۔

س جواب عرض کروں۔

”رب العزت! تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لئے یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا۔ صرف اس تمنا میں میرا یہ حال ہوا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے

حبیب کو میں راضی کر لوں۔“

واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں وارفتہ حالوں کی یہ پرسوز دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں انہوں نے بطور دعا مانگی تھی۔

کہنے کی بات یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں لیکن اپنی ہستی کو دشمن کے حوالے کر دینے کی دعا تو ایک دم نرالی ہے۔

ایسی آرزو اسی کے سینے میں چل سکتی ہے۔ جس نے شہیدوں کی زندگی کا عروج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور جس کی نگاہ میں مدنی محبوب کا ایک جاں نواز تبسم ساری متاع زندگی پر حاوی ہو گیا ہو۔



دیوانہء عشق

تاجدارِ کشور ولایت حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس وعظ کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ وعظ منعقد ہوا جوں ہی انہوں نے تقریر شروع کی ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔

خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شق ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشکبار نہ ہو۔ اثنائے وعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کروفر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔

اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس ضعف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہے۔

احمد ابن یزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہیں وہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و امارت کی ساری آن کو آن واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا اب اس کے پہلو میں ایک مسکین و درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔

وعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔

بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا۔

حضور! رات کا نشتر جگر سے پار ہو گیا ہے عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچاتا ہے۔ میری کشتی بچ منجد ہمارے میں ہے اسے ساحل تک پہنچا دیجئے۔

حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ صبر و حلیب سے کام لو رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دست گیری فرماتی ہے تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔

عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو۔ سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو گناہوں سے بچو شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو۔

اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ۔ یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔

حضرت سری سقطی کی گفتگو ابھی یہیں پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد بن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار جیب و دامن کی دھجیاں اڑاتے صحرا کی طرف نکل گئے۔

کچھ دنوں کے بعد احمد ابن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آبدیدہ ہو کر عرض کیا۔

خضور! میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تسکین بجاتی تھی۔ چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس وعظ میں شریک ہوا تھا اسی وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ آہ! اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔

حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اے ضعیف! صبر و شکر سے کام لے۔ تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے۔ وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کا انداز اختیار کرنا خدا کی وفادار کنیروں کا شیوہ نہیں ہوتا۔

چند ہی دنوں کے بعد گرد الود چہرے پر اگندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی جج دجج

میں احمد ابن یزید حضرت سری سقلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا۔ اٹھ کر سینے سے لگایا۔ خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔

اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آگیا ہے آ کر ملاقات کرلو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لئے روتی بیٹھی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔

بیٹا؟ تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیک گئے۔ انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں چل واپس چل اپنے گھر کو آباد کر۔ ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے پھر سے اسے شاداب کر۔

بیوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ میرے سر تاج! آخر ہم سے کیا بھول ہوئی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے۔ جیتے جی اپنے بچے کو تم نے یتیم بنا دیا۔ تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگران ہے۔

ماں اور بیوی نے ہزار منت و سماجت کی لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لئے سارا شہر امنڈ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا۔ اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی۔

ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے لو!۔

اس آواز پر حضرت احمد ابن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کبیل اس کے جسم پر لپیٹ دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زنبیل دی اور دوسرے ہاتھ پکڑ کر جونہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لاسکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لپٹا لیا۔

حضرت احمد یزید نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تہتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل ہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت احمد بن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔

چاندنی رات تھی حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد بن یزید کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔

یہ خبر سن کر حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا۔ افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آگئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک نحیف دلاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

”یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔“

حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالیس کے قریب بیٹھ کر آواز دی احمد بن یزید نے آنکھیں کھول دیں اور بجکی لیتی ہوئی سانس میں کہا۔

میرے مرشد! گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں ایک بندہ سیاہ کار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ عمل گناہوں سے بوجھل ہے اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنکھوں سے دو موتی ڈھلکے اور گریبان کی دُئی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدہم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔

حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگ عاشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا

گیا۔ فرط غم سے آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔

آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ تیری ادائے بے نیازی کے قربان! باغیوں کو
حریر و دیا کی مسند اور پھولوں کی تیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفا شعار مسکینوں کو
ایک ٹوٹا ہوا بور یہ بھی میسر نہیں ہے۔

یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جونہی پلٹے دیکھا کہ ہر طرف سے
لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔

اچھنبے سے دریافت کیا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ ابھی
ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑتی ہے کہ جو لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے
جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو وہ شونیز کے قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو
سن کر سارا بغداد امانڈتا ہوا چلا آ رہا ہے۔

حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور
کہا تیری شان بندہ نوازی کے قربان! زمین کی نگلی پٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا
یہ اعزاز عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا آج سارا بغداد اس کے
قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیائے فانی میں جس عاشق گنہگار کی توقیر کا یہ حال ہے۔ عالم
جاوید میں اس کی شوکتوں کا کون انداز کر سکتا ہے۔ ”سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ
نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“



کوچہ جاناں

عبداللہ عراق کا مشہور ڈاکو ہلاکت خیز غارت گراور ستم پیشہ قاتل آج ایک خوف ناک مہم سے پلٹ کر اپنے گھر آیا تھا۔ کافی سے زیادہ رات گزر چکی تھی ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا سردار! دوسری مہم کی تیاری کب تک ہوگی؟

آج جانے کیا بات تھی کہ اس سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان نہیں ظاہر ہوا اس نے نہایت بے دلی سے جواب دیا ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ تیاریوں کی اطلاع تمہیں وقت سے پہلے دی جائے گی۔ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نہ معلوم کک سے اس کا دل بوجھل تھا ہزار کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی چند ہی لمحوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ حیرانی کے عالم میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غفلتوں کی نیند بہت گہری تھی اسی لئے منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ لیکن اس مرتبہ دل کا بند دروازہ نیم باز ہو چکا تھا اور ہاتف غیب کی سرگوشیوں کے لئے گنجائش نکل آئی تھی۔

اچانک دل کے روزن سے کوئی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ظالم! ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ! تیرے نامہ زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آہ بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجھ سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا ہی چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تو ایک باغی مجرم کی طرح خدائے قہار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو دہشت و جلال سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے۔ اٹھ! اور اپنے خاکی جسم سے شیطان کا یہ پیرا ہن اتار کر پھینک دے۔ مغفرت و کرم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے جیسے بھی ممکن ہو اپنے روٹھے ہوئے مولیٰ کو راضی کر

ہاتھ غیب کی یہ خاموش صدا نہایت تیز نشتر کی طرح عبداللہ کے جگر کے پار ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے بسل کی طرح گھائل کر گئی۔

اب دل کی اندرونی حس بیدار ہو چکی تھی اور عمر بھر کی کشافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔ عبداللہ کی بے وقت آمد سے جعفر گھبرا اٹھا اس نے جلدی سے پوچھا کی کسی فوری مہم کی تیاری ہے؟..... عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا۔

”ہاں! آج زندگی کی سب سے بڑی مہم ہے میرے دوست“ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے سردار! ہچکیاں بھرتے ہوئے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جعفر! اس وقت میں ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہوں اپنی سب سے بڑی زندگی اور اس کے بھیا تک انجام کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا را بتاؤ کہ ایک باغی مجرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے۔ کیا اب کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس رحمت خاص کا کہیں سراغ لگ سکتا ہے۔ جس کے تئیں نامہ عمل کی سیاہی دھونے کے لئے دیدہ شرمسار کا فقط ایک قطرہ کافی ہے۔

جعفر! میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں مجھے چراغ دکھاؤ۔ میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں میری رہنمائی کرو میں گھائل ہو گیا ہوں میرے زخموں کی ٹیس کے لئے کوئی مرہم بتاؤ.....

اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپ ہو گیا ایک غمگسار چارہ گر کی زبان میں جعفر نے جواب دیا۔ دل کا یہ رقت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئی منزل تمہیں مبارک ہو سردار! افسوس کہ تمہاری طرح میں بھی کوچے سے نا آشنا ہوں۔ البتہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں! اسے پالنے کے بعد خدایابی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تک باریابی کے لئے یہی ایک راہ اب تک کھلی ہوئی ہے باقی تمام راستے بند ہیں خدا کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو تو تمہارے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے

کہ کسی مرشد کامل کا دامن تلاش کرو۔

میں نے سنا ہے کہ مرشد کامل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے مرشد کامل کے بغیر یہ راہ آج تک کسی نے بھی طے نہیں کی ہے عبداللہ!

جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کھل گیا۔ جیسے پاس کی تاریکیوں میں سے امید کی کوئی کرن نظر آگئی ہو۔ ایک غم نصیب شکر گزار کی زبان میں اس نے جعفر کی ہمدردیوں کے جواب میں کہا۔

میرے دیرینہ ہمد! تمہاری غم گسار رہنمائی کا شکریہ! تم نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا ہے اب اگرچہ میں مایوس نہیں ہوں لیکن میرے دوست! کسی مرشد کامل کی تلاش کا صحیح شعور بھی تو مشکل امر ہے اس مشکل کو بھی اب تم ہی آسان کرو تم ہی کسی مرشد کامل کا نشان بتاؤ میں اس کی گلی میں سر کے بل جاؤں گا۔ عبداللہ کے اس سوال پر جعفر ایک شریک غم کی طرح پھوٹ پڑا میرے محسن! تم شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ باور کرو! میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو میں اس کے لئے بھی اپنے کو تیار پاتا ہوں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آگ پانی سے نہیں تجلیات کی خنکی سے بجھتی ہے۔

سردار! تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا ماحول دونوں کا ایک ہی رہا ہے تمہاری ہی طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزاں رہا ہوں جہاں خیال و عمل کی طہارت حاصل ہوتی ہے اس لئے تمہاری طرح مجھے بھی کسی مرشد کامل کا کوئی تجربہ نہیں ہے ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کامل کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے اس لئے اگر تم خدا کا نام لے کر اس مہم پر جو نکل پڑو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری ضرورت مدد کرے گا۔ یہ راہ طے نہیں کی جاتی ہے۔ سردار! کرائی جاتی ہے۔ جگر میں ٹیس اب بھی تھی لیکن زخموں کی جلن کم ہوگئی تھی۔ یاس کی تاریکیوں میں آنے والا عبداللہ اب اکیلا نہیں تھا اس کے ہاتھوں میں امید کا چراغ بھی تھا۔ جعفر کی بات سن کر اضطراب شوق کے خود فراموش عالم میں عبداللہ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی رحمت یزدانی کے فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی چاندنی میں اچانک ایک قافلہ نور زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آیا شاید کسی فیروز بخت کی دعا آج شرف قبول سے سرفراز ہو

نے والی تھی۔

عبداللہ اپنی کوٹھری کے ایک تاریک گوشے میں چھپ کر رو رہا تھا۔ کبھی کبھی ہچکیوں کے درمیان رقت و کرب میں ڈوبی ہوئی یہ آواز سنائی دیتی تھی۔

اے مغفرت و کرم کے والی! ایک شرم سار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے! اے تیرہ بختوں کی امید گاہ اپنی سیاہ کار زندگی سے تائب ہو کر آج میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں تو اپنی اونچی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکار سن لے! اے دل کے ٹوٹے ہوئے آہنگینوں کو جوڑنے والے ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ بھیج دے کسی مرشد کامل کو۔ تیری دہلیز تک مجھے پہنچا دے! بے نیاز مولیٰ! میں تری بارگاہ عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روؤں گا۔ چل چل کر تڑپوں گا اور زار زار فریاد کروں گا۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ رات بچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے دعا تمام کی چاروں طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ حق کی تلاش میں اس کے سفر کا نقطہ آغاز تھا گلیوں اور پرچ راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک چوراہے پر جا کھڑا ہوا۔ نامعلوم طور پر دل بے یمن نے نشان دہی کی کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہی مرشد کامل کی ملاقات کی جگہ ہے انتظار میں ہرے کھڑے کافی عرصہ بیت گیا۔ ستاروں کی آنکھیں ڈوبنے لگیں۔ امید و بیم کی کش مکش کا یہی عالم تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر حرکت کرتا ہوا ایک سایہ نظر آیا بے ساختہ دل نے آواز دی۔

”مرشد کامل آ رہا ہے“ پابوسی کے لئے شوق کی نگاہ جھکی۔ عقیدت نے قدم بڑھائے امیدوں نے خیر مقدم کیا اور قریب پہنچ کر اس نے عالم بے خودی میں پکارا۔

مرشد کامل! میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں آؤ میرے قریب آؤ! میرے کشور دل پر فرماں روائی کرو۔ مجھے مرید کر لو مجھے بے دام خرید لو۔ میں تمہارے ہاتھ پر اپنی متاع ہستی بیچ رہا ہوں مجھے اپنے کامل ورخ کا غلام بنا لو میں اپنے نصیب دشمن آزادی کو تمہارے قدموں پر نثار کرتا ہوں۔ آنے والے نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا۔ میرے بھائی! میں تمہاری زبان نہیں سمجھ رہا ہوں تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں۔ میں اندھیری راتوں کا سیاح ہوں۔ مجھے اجازت دو تمہاری امیدوں کا مرکز کوئی اور ہوگا۔

عبداللہ نے دامن تھامتے ہوئے کہا میں کس کا انتظار کر رہا ہوں اور میری امیدوں کا

مرکز کون ہے یہ جاننا تمہارا کام نہیں میرا کام ہے۔

خدا کے ایک پھڑے ہوئے بندے کو خدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے مرشد! دیر مت کرو مجھے جلد مرید کر لو تا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہو جائے۔“

آنے والے نے ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دیا میرے بھائی! میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے غلط سمجھا ہے میں اس راہ کا آدمی نہیں ہوں میں کیا ہوں اور میرا پیشہ کیا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تھوک دو گے اس لئے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔“

ہزار انکار کے باوجود عبداللہ اپنی ضد پر قائم تھا اور کسی طرح بھی اس دامن سے الگ ہونے کے لئے تیار نہیں تھا۔

اب وہ بھی تنگ آچکا تھا اور ایک اجنبی دیوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی حیلہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو! نہیں مانتے تو میں نے تمہیں مرید کر لیا۔ اب آج سے تم ہمارے ہاتھ بک گئے جس پر خطر راہ میں تم نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں کھڑے رہو جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں کھڑے رہنا یقین رکھو واپسی کے بعد میں تمہیں وہ راستے طے کرادوں گا جو بارگاہ ایزدی کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے اچھا اب اجازت دو۔“

یہ کہتا ہوا وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا۔ عبداللہ کی حسرت بھری نگاہیں اس کا قدم چومتی رہیں۔ صبح ہوگئی اور عبداللہ انتظار میں کھڑا رہا۔ دن چڑھے تک شہر کے ایک مشہور شخص کا گھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہر طرف سے آدمیوں کا تابتا بندھ گیا۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے گھر واپس چلے لیکن سب کے لئے اس کے پاس ایک ہی جواب تھا۔

میری ہستی کا فرمانروا میرا مرشد کامل مجھے حکم دے گیا ہے کہ جب تک پلٹ کر نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہنا اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں ٹل سکتا وہ وعدہ کر

گیا ہے کہ مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔

لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ رات بھی ختم ہوگئی اب دن کا آخری حصہ گزر رہا ہے اسے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا اب اس کا انتظار بے سود ہے اس نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، عبداللہ نے یقین کے طور میں شرابور ہو کر جواب دیا، اپنی زبان کو آلودہ گناہ مت کرو مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ ضرور واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کی واپسی کی میعاد صبح محشر تک ہے۔ تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں عمر کے آخری لمحے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں تھی وقت کا قافلہ بھی رواں دواں تھا کتنی شام آئی اور گزر گئی کتنے سورج نکلے اور ڈوب گئے لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا کھڑا ہی رہا۔ اب وہ علاقہ کا قابل نفرت جرائم پیشہ نہیں تھا۔ عقیدت کیش نگاہوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ہزاروں شیدائی ہر وقت اسے اپنے جھرمٹ میں لئے رہتے تھے۔ مرشد کامل کا انتظار اب تنہا اسی کو نہیں تھا۔ دیوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے شریک حال ہوگئی تھی۔

چاندنی رات تھی پچھلا پہر تھا ساری آبادی پر خموشی طاری تھی تماشائی بھی غنودگی کے عالم میں تھے لیکن عبداللہ بدستور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انتظار میں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لمبی عبا پہنے ہاتھ میں عصا لئے کھڑے تھے نگاہوں کا جلال پیشانی کی طلعت اور چہرے سے برستا ہوا نور نشان وہی کر رہا تھا کہ انسانی پیکر میں کوئی آسمان کا فرشتہ اتر آیا ہے عظمت خداداد کی دھمک سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں دل ایک نامعلوم ہیبت سے مرعوب ہو گیا۔ نووارد بزرگ نے پر شکوہ لہجے میں دریافت کیا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنکھیں نیچی کیے ہوئے عبداللہ نے جواب دیا! مرشد کامل کے انتظار میں! نووارد بزرگ نے پھر سوال کیا۔ کون مرشد کامل؟ عبداللہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا وہی مرشد کامل جس کے ہاتھ پر میں سرید ہو چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم یہیں میرا انتظار کرو میں واپس ہونے کے بعد تمہیں بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دوں گا۔

نووارد بزرگ نے فہمائش کے انداز میں ارشاد فرمایا میرے عزیز! وہ مرشد کامل نہیں ہے اندھیری راتوں کا سیاح ہے بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم۔ وہ تمہاری رہنمائی

کیا کرے گا۔ اب وہ۔ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ بلاوجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک کرو۔ عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے دل کا یہ یقین کسی طرح متزلزل نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ یزادنی کا راستہ قطعاً معلوم ہے۔ مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔

نوادرد بزرگ نے تنبیہ کے لہجے میں فرمایا۔ ”ایک غلط بات پر اصرار مت کرو! تم سخت قسم کے فریب میں مبتلا ہو۔ اپنی نادانی سے ایک چور کو تم نے مرشد کامل سمجھ لیا ہے سوتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے کاجل چرانے والا بھی اگر مرشد کامل ہو سکتا ہے تو شامت کی ماری ہوئی دنیا کو اب مرشد کامل کی کوئی احتیاج نہیں ہے افسوس تمہاری نا سمجھی پر! اب عبداللہ کا پیمانہ ضبط لبریز ہو چکا تھا مرشد کامل کے خلاف نشتر برداشت نہ ہو سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہچکیوں پر قابو پانے کے بعد اس نے درد و کرب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا مجھے سخت افسوس ہے کہ ایک طرف تو آپ کا سراپا دلوں پر ملکوتی اثر ڈال رہا ہے اور دوسری طرف آپ مرشد کامل کی خدمت کر رہے ہیں اتنا مقدس ہو کر آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گستاخی نہ ہو تو کیا میں آپ کا نام نامی اسم گرامی معلوم کرنے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہوں۔ نووارد بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میرا نام معلوم کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سن لو کہ مجھے ”خضر“ کہتے ہیں بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریضہ ہے اسی رشتے میں نے تمہاری فہمائش کی ہے۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جھک کر قدموں کا بوسہ لیا عبا کا دامن آنکھوں سے لگایا اور فرط ادب سے کانپتے ہوئے کہا آج میں اپنی خوش نصیبی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے آج بغیر کسی زحمت التجا کے ان حیرت نصیب جلوؤں سے میری نگاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عرض کرنے کی بھی اجازت دی جائے کہ جس مرشد کامل کو چور کہا جا رہا ہے اس سے مرید ہونے کے بعد ہی مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے اس ”چور“ کی نسبت کا یہ اعزاز کیا میرے لئے قابل فخر نہیں ہے زہے نصیب! کہ آپ کی تشریف آرزانی سے مرشد کامل پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا؟

حضرت خضر نے کریمانہ انداز میں ارشاد فرمایا ”پھر تم نے اسی غلطی کا اعادہ کیا میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا ہوں تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنالیا ہے۔ البتہ اب مشیت کا کچھ ایسا

انداز معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری ضد پر چور ہی کو مرشد کامل بنا دیا جائے طلب صادق کا یہ جنوں اور جذب عشق کا یہ ولولہ شیطان کی دست برد سے محفوظ رہ گیا تو یہ بشارت سن لو کہ اسی جگہ مرشد کامل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چند لمحوں کے بعد تم بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر خلعت عرفان سے سرفراز کئے جاؤ گے! انتظار کرو! اس ساعت جاں فروز کا جب تمہارے دل کی سرزمین پر تجلیات الہی کا عرش بچھایا جائے گا خدائے قادر تمہارے حوصلہ جنوں انگیز کی حفاظت فرمائے یہ کہتے ہوئے حضرت خضر واپس پلٹے اور دو قدم چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا اور عبد اللہ کے نصیب کی رات کی تاریکی چھٹنے لگی آج عرصہ دراز کے بعد عبد اللہ کو ذرا سی نیند آئی تھی۔ آنکھ لگتے ہی اس نے دیکھا کہ کارکنان قضا و قدر عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہیں ناگہاں حجاب عظمت سے ایک آواز آئی اور فرشتے ہیبت جلال سے سجدہ ریز ہو گئے۔

اندھیری راتوں کا سیاح 'یا عبد اللہ' کا مرشد کامل جس کا نام یحییٰ تھا۔ آج بے حد مسرور تھا بغداد عروس البلاد کے متعلق بہت ساری روایتیں اس نے سنی تھیں۔ بہت دنوں سے اسے اشتیاق تھا کہ ایک بار چل کر اس دولت مند شہر میں قسمت آزمائی کی جائے۔ آج چند حوصلہ مند ساتھیوں کی مدد سے بغداد کی مہم کا پروگرام طے پا گیا تھا۔ مشورے کے مطابق صبح سویرے بغداد کے لئے روانگی تھی اس لئے رات ہی کو تمام ساتھی ایک جگہ جمع ہو گئے اور پو پھٹتے ہی اندھیری رات کے سیاہوں کا یہ دستہ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔

جیسے جیسے بغداد قریب آتا جا رہا تھا نامعلوم طور پر یحییٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی اس بے چینی کا اس نے ساتھیوں سے کئی بار ذکر بھی کیا لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔

کئی دن شب و روز چلنے کے بعد یہ معلوم کر کے سب کو خوشی ہوئی کہ بغداد صرف ایک منزل کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی ایک دادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے جیسے وہ بلندی پر چڑھے سامنے بغداد کا حسین شہر جھلک رہا تھا۔ منزل مقصود پر نظر پڑتے ہی روح مسکرائی اور دل جھوم اٹھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اب یہ دستہ بغداد کے شہر میں داخل ہو چکا تھا ایک وسیع شاہراہ سے گزرتے ہوئے ایک عالی شان عمارت نظر آئی دروازے پر

سوار یوں کا ہجوم گھوڑوں کی قطار اور اونٹوں کی بھیڑ دیکھ کر یحییٰ (عبداللہ کا مرشد کامل) چلتے چلتے رُک گیا اس کا اندازہ غلط نہیں تھا کہ یہ شہر کے کسی بڑے رئیس کا گھر ہے پاس ہی کھڑے ہوئے ایک راہ گیر سے دریافت کیا۔

کیا یہ شہر کے بڑے رئیس کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا صرف شہر ہی کے نہیں بلکہ روئے زمین کے سب سے بڑے رئیس کا گھر ہے آج تک اس کے خزانے کی کوئی تھاہ نہیں پاسکا اس کے قدموں کے نیچے سونے اور جواہرات کے کان بچھے رہتے ہیں ہفت اقلیم کی بادشاہی اس کے گھر کی ایک معمولی کنیر ہے ہواؤں دریاؤں صحراؤں پہاڑوں پر ہر جگہ اس کی شوکت اقتدار کا پرچم گڑا ہوا ہے راہ گیر کی یہ بات سن کر اس کا دماغ ایک نامعلوم ہیبت سے مرعوب ہو گیا فرط حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہو سکے اس رئیس کا نام کیا ہے؟

”ایک نام ہو تو کوئی بتائے بھی بے شمار نام ہیں اس کے“

دست گیر کونین، شیخ الثقلین خواجہ کائنات سلطان الاقطاب مخدوم الوری غوث الاعظم، امام اعظم امام جیلان، محبوب سبحانی یہ اور اس طرح کے ناموں کا ایک زریں سلسلہ اس ذات سے منسوب ہے۔ راہ گیر نے جلدی میں جواب دیا اور ایک لمحہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ یحییٰ نے فاتحانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا معلوم ہوتا ہے آج قسمت کا ستارہ اوج پر ہے اتنے بڑے دولت مند کے گھر کا غبار ہی ہاتھ آ گیا تو عمر بھر کے لئے کافی ہے آدھی رات تک غور و فکر کے بعد ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں یحییٰ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ سب کے فرائض تقسیم کر دیے آج جانے کیا بات تھی کہ غوث الوری کی خانقاہ کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی سارا بعد اوندی کی خموشی میں شرابور تھا کہیں کہیں سے رات کے پاسبانوں کی آواز کان میں آرہی تھی۔ یحییٰ دبے پاؤں خانقاہ کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا اور دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ ہمت کر کے اندر داخل ہوا اندھیرے میں دیر تک ادھر ادھر ٹوٹا رہا لیکن کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی سخت حیران تھا کہ اتنے بڑے رئیس کا گھر اور بالکل خالی ناہان کی حسرت کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کا غبار ہی لیتے چلیں ممکن ہے اس میں سونے اور جواہرات کی راکھ چھپی ہو۔

چاروں طرف سے گردوغبار جمع کر کے ایک چھوٹی سی گھڑی بنائی اور لے کر جونہی دروازے سے باہر قدم نکالا کہ اچانک آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا دو چار پلک جھپکانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آنکھوں کی روشنی زائل ہو چکی ہے۔ گھبرا کر بیٹھ گیا دل ڈوب رہا تھا آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اتنے میں قریب ہی سے پاسبانوں کی آواز کان میں آئی گھبرا کر پھر گھر کے اندر پلٹا اور ایک کونے کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا کونین کا دستگیر اور ٹھکین کا غوث تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ عارضِ تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی پیشانی کی موجوں میں کرن لہرا رہا تھا آنکھوں سے تجلیات کے چشمے ابل رہے تھے اور دل کی شمع فروزاں تعلیم ولایت کے نگار خانوں کو چمکا رہی تھی۔

سامنے رجال الغیب ہاتھ باندھے کھڑے تھے ایک نقیب نے آگے بڑھ کر عرض کیا۔ عالم پناہ! فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ زبان حق ترجمان سے مغفرت و رحمت کی دعا دیتے ہوئے۔ سرکار غوث الوریٰ آگے بڑھ گئے۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر یحییٰ کانپ اٹھا بھاگنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گیا۔

آج میرے گھر کون مہمان ہے کشور دل کو فتح کر لینے والی ایک آواز کان میں آئی امید بیم کی کش مکش میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک اقبالی مجرم کی طرح بہ مشکل تمام یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔

سرکار؟ میں ہوں ایک شامت نصیب! اندھیری راتوں کا سیاح دولت خداداد کا شہرہ سن کر یہاں آیا تھا لیکن مصیبت کے ہاتھوں گرفتار ہو کر رہ گیا۔ اب زندگی کا سب سے بڑا ماتم یہ ہے کہ یہاں آ کر اپنی آنکھوں کی پیمائی کھو بیٹھا ہوں آہ! روئے زمین کے سب سے بڑے رئیس کے کتنی امیدیں لے کر آیا تھا اب کون جانے قسمت کا کیا انجام ہوگا اتنا کہتے کہتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

روومت! کرم کا آگہینہ بڑا نازک ہوتا ہے ذرا سی ٹھیس سے گھائل ہو جاتا ہے۔ لو! میرے دام، میری اپنی بھیگی پلکوں کا آنسو جذب کر لو یہ مایوس امیدوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں مجرم کو سزا دی جاتی، دل کی تطہیر کی جاتی ہے اپنی ناکامی کا افسوس دل سے نکال دو۔ میری چوکھٹ کا امیدوار آج تک خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹا ہے۔ صبر سے کام لو آنکھوں کی روشنی نفع کے ساتھ واپس ہوگی یہ فرماتے ہوئے سرکار غوث الوریٰ اس کے بالکل قریب آگئے۔

دوسرے ہی لمحے کرم کی نگاہ کارساز اٹھی اور اس کی بے نور آنکھوں کی راہ سے دل تک پہنچ گئی بس اب کیا تھا آن کی آن میں عرفان کے سارے لطائف کھل گئے۔ اور اب پلک جھپکی تو وہ عالم ناسوت کی آخری سرحد پر کھڑا تھا اب ہر طرف تجلیات کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے فروزاں تھا۔ اب وہ اندھیری راتوں کا سیاح نہیں تھا۔ ولایت کی اقلیم کا تاجدار بن چکا تھا۔ غوث الوریٰ کی سرکار سے حکم صادر ہوا۔

ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاح شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج سے اس جگہ پر تمہیں بحال کیا جاتا ہے فوراً وہاں پہنچ کر اپنے منصب کے فرائض سنبھالو۔ ایک اتھاہ جذبہ عقیدت کے ساتھ جھک کر اس نے سرکار کی پائے گاہ کو بوسہ دیا اور اٹنے پاؤں واپس لوٹا۔ دروازے تک پہنچ کر قدم باہر نکالنا ہی چاہتا تھا کہ رجال الغیب کے مجمع سے آواز آئی۔ آخر ایک دیوانے کی ضد نے چور کو ”مرشد کامل“ بنا ہی دیا۔ پھر اسی شاہراہ سے وہ گزر رہا تھا۔ جس پر چل کر وہ عرفان حقیقت کے بحر ذخار تک پہنچا تھا لیکن اب قدموں کے نیچے فرش زمین نہیں کائنات کا دل بچھا جا رہا تھا۔ جس راہ سے گزرتا گیا آنکھوں کے پیمانے سے قادری نمیکدے کی شراب ٹپکتی گئی دن چڑھتے چڑھتے اس نے کئی روز کی مسافت طے کر لی تھی۔ اب وہ ولایت کی قلم رومیں داخل ہو چکا تھا چند ہی قدم کے بعد شہر کی عمر میں نظر آنے لگیں۔ آبادی کے ایک چوراہے پر ہزاروں آدمیوں کا میلہ لگا ہوا تھا ایک اجنبی راہ گیر سمجھ کر لوگوں نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔

”اژدھام کے باعث ادھر سے آمد و رفت کا راستہ بند ہے آپ کسی اور طرف سے جائے لوگوں نے حیرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کئی ہفتے ہو گئے اس واقعہ کو! سارا علاقہ ہل گیا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔“

بچی نے کہا میں اس علاقے کا باشندہ نہیں ہوں مجھے اصل واقعہ سے آگاہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر کا ایک اچھا خاصا آدمی کئی ہفتے سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اسی چوراہے پر دن رات کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”میں مرشد کامل“ کے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں۔ وہ مجھ سے وعدہ کر گیا ہے کہ تم یہیں میرا انتظار کرو۔ میں واپس موندنے کے بعد بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ ہزار اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ اس کا انتظار بے سود ہے۔ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ سب کو یہی جواب دیتا

ہے کہ مرشد کامل جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔ دلوں کا میلان اس کی طرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں رہتا ہے اس کے ارد گرد ہر وقت پروانوں کا ایک جگمگاہٹ لگا رہتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر دفعتاً اس کا حافظہ تازہ ہو گیا اور اچانک اس رات کا سارا واقعہ نگاہوں کے سامنے پھر گیا اب غور سے دیکھا تو وہی چوراہا تھا جہاں ایک دیوانے سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے مرید کیا تھا اور اپنی واپسی تک وہیں انتظار کرنے کا اسے حکم دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ یاد آتے ہی وہ بے خود ہو گیا۔ جذباتِ تابِ ضبط سے باہر ہو گئے دارِ فکلی شوق میں دامن پھاڑتا شور مچاتا مجمع کی طرف دوڑا اور ہجوم کو چیرتا پھاڑتا عبداللہ کے قریب پہنچ کر آواز دی! میں آ گیا! میں آ گیا! میرے مرید! میں اپنا وعدہ پورا کرنے آ گیا۔ جانی پہچانی آواز سن کر عبداللہ چونک پڑا جونہی چہرے پر نظر پڑی بے ساختہ چیخ پڑا۔

مرشد کامل آ گیا! مرشد کامل آ گیا! میں کہہ رہا تھا مرشد کامل جھوٹ نہیں بولتا وہ ضرور آئے گا۔ یہ کہتا ہوا بے خودی میں تڑپا اور مرشد کامل کے سینے سے لپٹ گیا۔ ایک بہت دنوں کی پیاسی روح چشمہ عرفاں سے سیراب ہو رہی تھی اور تجلیات کا ایک نیا عالم نگاہوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ سینے سے لپٹے ہوئے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مرشد کامل نے آواز دی۔

عبداللہ! آنکھیں کھولو! تم بارگاہِ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچ گئے۔ آنکھ کھولتے ہی عبداللہ سجدے میں گر پڑا ہاتھ غیب نے آواز دی ”آخر ایک بندہ گنہگار نے عشق کی آہ وزاری اور فریاد کی سوز و تپش سے اپنے روٹھے ہوئے مولیٰ کو راضی کر ہی لیا۔

شعاع مہر خود بیتاب ہے جذبِ محبت سے
حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پروازِ شبنم کی!



زبیدہ خاتون

دنیاے اسلام کا مایہ ناز فرماں روا خلیفہ ہارون رشید بغدادی جس کے رعب و جلال سے دنیا کے تین حصے ہمیشہ متاثر رہے فارس، روم اور یورپ کے سلاطین جس کی چوکھٹ کے باجگزار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔

زبیدہ خاتون اسی نیک نام بادشاہ کی پاک طینت و فاسرشت اور فیاض بیونی تھی۔ ویسے کہنے کے لئے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تھی۔ لیکن اس کے پہلو میں نہایت مسکین پر سوز اور دردمند دل تھا۔

اہل اللہ اور خدا رسیدہ بزرگوں سے وہ بے پناہ عقیدت رکھتی تھی۔ مقدس مقامات کی زیارت اور مزاراتِ طیبات کی حاضری اس کی زندگی کے محبوب ترین معاملات سے تھے۔ مکہ معظمہ میں ”نہر زبیدہ“ نام کا صاف و شیریں چشمہ اس کے جذبہ عقیدت کی یادگار ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بغداد میں ہر طرف سلطان العاشقین حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق و سرمستی اور جذب استغراق کا ڈنکا بج رہا تھا کہ ایک دیوانہ عشق کے پیچھے پیچھے کھنڈروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ہجوم سیلاب کی طرح رواں دواں رہا کرتا تھا۔ جہاں بیٹھ گئے دنیا بس گئی اٹھے تو شہر اُجڑ گیا۔

نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اب ڈھونڈھئے ان کو چراغ رخ زیبائے کر اور کہیں مل گئے تو عالم ایسا کہ ملنا نہ ملنا دونوں برابر ہزاروں کے بیچ لیکن تنہا خیال یار کے سوا کوئی شریک جہاں نہیں دل کی دھڑکنوں سے قریب لیکن دور بہت دور سرحد امکان کے اس پار قدم قدم پر عشق بے نیاز کا جلوہ ادا ادا میں شان استغنا کا ظہور اسی عالم کیف و مستی کے ساتھ حضرت بہلول دانا دل کی ہزاروں بستیوں میں اتر گئے تھے۔

زبیدہ خاتون بھی ان کے کشف و کرامات اور جذب و عشق کے غلغلوں سے بے حد متاثر تھی۔

زیارت کا شوق دلی ہوئی چنگاری کی طرح ہمیشہ سلگتا رہتا تھا۔ ہزاروں موقع تلاش کرنے پر بھی دل کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ تخت و تاج کی ملکہ سے کسی دیوانہ عشق کا رشتہ ہی

کیا ہو سکتا ہے اپنے محبوب حقیقی کے لئے جس نے دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہو۔ وہ کسی اور کو کیوں دیکھے اور پھر جنونِ شون کے ہاتھوں جسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو اس کی بے التفاتیوں کا شکوہ ہی کیا ہے؟

البتہ طبیعت کبھی نشاط پر ہو۔ وحشتِ عشق کا طوفان بھی ختم گیا ہو اور جہاںِ خاکی کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت بھی مل گئی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اپنے کسی پروانہ کی طرف نگاہ اٹھ جائے اور اس کو زمین کی فیروز مندیوں سے سرفراز کر دیا جائے۔

ایک بار زبیدہ خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور وہ نہال ہو گئی۔ چار بجے شام کا وقت تھا دن بھر کا تھکا ماندہ سورج اپنے مستقر کی طرف تیزی سے لوٹ رہا تھا۔ ہوا کی خشکی اور فضا کی رہنمائی خوشگوار ہوتی جا رہی تھی یہی وقت تھا جب کہ زبیدہ خاتون تفریح کے لئے شاہی باغ میں جایا کرتی تھی۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیر نے آ کر اطلاع دی حضور! ملکہ معظمہ سواری تیار ہے خواصیں خیر مقدم کے لئے چشمِ براہ ہیں۔

زبیدہ خاتون کنیروں کے جھرمٹ میں اٹھی اور سواری میں آ کر بیٹھ گئی۔ سواری محل کے دروازے سے نکل کر بغداد کی محفوظ شاہراہوں سے ہوتی ہوئی قریب ہی ایک شاداب صحرا کی طرف بڑھنے لگی تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی درخت اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے اچانک ایک کنیر کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ملکہ وہ دیکھئے! حضرت بہلول دانا جھاڑیوں کے درمیان کچھ چن رہے ہیں۔ زبیدہ چونک گئی۔ خوشی سے دل اچھلنے لگا۔ محافے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو بکھرے ہوئے بال پراگندہ پراہن اور حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ایک شخص پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہا تھا۔ سواری روک دی گئی۔ اضطرابِ شوق کے عالم میں زبیدہ اتر پڑی اور لرزاتے کانپتے جھکتے ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔

ہمت کر کے سامنے پہنچی اور مودب کھڑی ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا پتھروں کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنانے میں اس درجہ منہمک تھے کہ انہوں نے آنے والی کی طرف مطلق کوئی توجہ نہیں فرمائی۔

ایک گم گشتہ حال دیوانہ عشق کو نظارہ جمال یار سے اتنی کہاں فرصت کہ نگاہ اٹھا کر کسی اور کو دیکھتا۔

بادشاہ وقت کی ملکہ جس کے سامنے کھڑی تھی وہ خونہفت اقلیم کا بادشاہ تھا اس ابرو کی شکن پر بادشاہوں کی تقدیر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی اس کی حکومت کا رقبہ جہان فانی سے لے کر عالم جاوید تک پھیلا ہوا تھا۔

زبیدہ امید و بیم کے عالم میں دیر تک سر جھکائے کھڑی رہی خود ہی ہمت کر کے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا۔

السلام علیکم!

یہ الفاظ شہنشاہ کونین، خاتم پیغمبراں کی شریعت قاہرہ کے تھے سنت رسول کے احترام میں دیوانہ اپنے عالم سے پلٹ آیا۔ حیروت عشق کی شراب ناب سے مخمور آنکھیں اوپر اٹھیں اور دل کا کشور جیت لینے والی آواز میں جواب دیا۔

وعلیکم السلام!

لب و لہجہ کے جلال سے فضا لرز گئی۔ زبیدہ کا نرم و نازک دل کانپ گیا۔ کچھ وقفے کے بعد ہمت بندگی حوصلہ بڑھا اور امید ہو گئی کہ آج ساقی مائل بہ کرم ہے دوبارہ عرض کیا۔

”حضور یہ کیا ہمارے ہیں۔“

کونین کے رازدار سے یہ سوال کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہزار غیر اہم ہونے کے باوجود بھی سلطنت کے رموز بتانے کے نہیں ہوتے۔ اقلیم باطن کا سلطان کیا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے اس کی شام و سحر کہاں بسر ہوتی ہے یہ سرتاسر کائنات عشق کے اسرار ہیں محرم راز کے سوا انہیں کوئی نہیں جان سکتا۔

زبیدہ خاتون کا سوال بھی بالکل اسی طرح تھا۔ وہ ایک دیوانہ عشق سے عالم حقیقت کا راز فاش کرانا چاہتی تھی۔ جس کا سلسلہ عالم امر سے ہے۔

اس مصلحت سے نا آشنا سوال پر حضرت بہلول دانا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پیشانی کی سطح خاموش پر شکن ابھر آئی۔

یہ کیفیت دیکھ کر زبیدہ دہشت زدہ ہو گئی۔ لیکن سوال کے پیچھے اسے اپنے دل کے اخلاص و عقیدت کا یقین تھا اس لئے نتائج کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔

پھر اچانک ایسا ہوا چہرے کا تیور بدل گیا۔ پیشانی کی شکن مٹ گئی۔ لالہ کے ورق پر شبنم کی نمی ابھر آئی کرم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور حضرت بہلول دانا نے حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھتے ہوئے فرمایا۔ کیا بنا رہا ہوں۔ یہ معلوم کرنا چاہتی ہے تو یقین کے کان سے سن لے کہ میں فرش گیتی پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔“

ایمان اور عقیدت کی سلامتی اور فیضان عشق کی برتری بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ عقل فتنہ پر داز جسے دن کی طرح روشن حقیقتوں کا انکار کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی یہاں پہنچ کر اس کی رہبری کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔

عقل فریب کار کے مشورے پر دانشوروں کا قافلہ اپنی راہ بدل دیتا ہے۔ لیکن ہزار افسوس کے بعد دیوانہ جادہ حق سے کبھی نہیں ہٹتا عقیدت و عشق کی سرحد یقین جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں عقل در ماندہ شام کا چراغ جلاتی ہے۔ بحث و دلیل سے بے نیاز اس نئے اقلیم میں داخلے کا پروانہ اسے آج تک نہیں مل سکا۔ زبیدہ خاتون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تاہل نہ ہوا کہ اینٹ اور پتھر کا یہ گھر و اندا یقیناً فرش گیتی پر جنت کا محل ہے اپنی آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عارف عشق کی بات کبھی نہیں غلط ہو سکتی۔

اس یقین کے نتیجے میں پھر اس نے سوال کیا۔ حضور! جنت کا یہ محل میرے ہاتھ پر فروخت کریں گے؟

جواب ملا۔ ضرور فروخت کروں گا۔“

ذرا ناز بندگی کا تماشا دیکھئے۔ جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے۔ سچ فرمایا ہے جان عاشقاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے۔“

اب اس تشریح کی چنداں حاجت نہیں ہے کہ جب خدا ہی اس کا ہو گیا تو اب کائنات میں باقی کیا رہ گیا۔ دشوار کو نین کی تسخیر کا مرحلہ نہیں ہے۔ دراصل سب سے مشکل کام خدا کو راضی کرنا ہے۔ خدا کے محبوب مطلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول ہے۔ بادشاہ کے تئیں مقرب و معزز ہو جانے کے بعد رعایا کی تسخیر کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اس پر امید لہجے میں پھر دریافت کیا۔ کتنی قیمت پر فروخت کریں گے ”یہ جنت“

جواب دیا۔ ایک درہم پر“

ذرا رحمت یزدانی کی یہ ادا تو دیکھئے۔

براہ راست خریدو تو جنت کی قیمت پوری جان۔ اجنبی سے لینا چاہو تو ایک درہم میدان جہاد کے شہیدوں کا حال یہ ہے کہ ایک ہار جان دی۔ ایک جنت کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جو ہر آن خنجر تسلیم و رضا سے شہید ہو ہو کر مرتا اور جیتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے ہر شہادت پر ان کشمکش عشق کو جو جنتیں ملتی ہیں انہیں اختیار ہے یونہی دے دیں قیمت لگائیں بخشی ہوئی جنت کو جو چاہیں سو کریں۔ اپنی چیز اپنی مرضی۔

جواب سنتے ہی زبیدہ نے فوراً قیمت پیش کر دی۔ قیمت ادا ہو جانے کے بعد حضرت بہلول دانائے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گھروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے فرمایا:

”میں نے جنت کا یہ محل ایک درہم کے عوض زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔“

یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئی۔ کہ اسے جیتے جی جنت مل گئی۔ زمین خدمت چوم کر جب وہ اپنی سواری کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ تو اپنے نصیب کی ارجحندی پر اس طرح نازاں تھی جیسے دنیا میں اب اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔

آج مے کدہ عشق کے ایک بادہ نوش نے اس کی آفرینش کا سب سے نازک ترین مرحلہ طے کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد اپنا انجام وہ خود بیان کر دینے کے قابل ہو گئی تھی۔ اسے نامعلوم طور پر یقین تھا کہ موت کی آخری ہنگام جنت کا استحقاق باقی رہے گا۔

فضا میں شام کی سیاہی پھیل گئی تھی۔ لیکن وہ فیروز بختی کے اجالے میں شاہی محل واپس ہوئی۔

عائلاً رات کا پھپھلا پہرہ تھا۔ سارے محل پر رات کی خموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کہیں سے پاسانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بغداد کا حسین و دلکش شہر دھلی ہوئی چاندنی میں نہا نہا کر اور نکھر گیا تھا۔ جابجا کشور ولایت کے سلاطین کی خوابگاہوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی زمین سے آسمان تک ساری فضا تجلیات کے انور سے جگمگا رہی تھی۔

نماز تہجد اور مناجات نیم شبی سے فارغ ہو کر زبیدہ خاتون اپنے حرم سرا میں محو خواب تھی۔ دروازے کے باہر کنیران خصوصی کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر ایک کنیر چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو بادشاہ وقت ہارون رشید دبے پاؤں چلے آ رہے تھے۔

خلافِ عادت تشریف آوری پر کنیریں ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگیں۔ ہارون رشید نے آگے بڑھ کر زبیدہ کی خواب گاہ کے دروازے پر دستک دی۔ زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے سناٹے میں دروازے پر دستک زعمی کا غیر معمولی حادثہ تھا۔ گھبراہٹی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا۔

ہارون رشید کو دروازے پر دیکھ کر کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ سکتے کی حالت میں اس نے بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اندر لے آئی۔

طرح طرح کے اندیشوں سے جگر کا خون سوکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل سکے۔

”اتنی رات گئے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ نصیب دشمنان کوئی تشویش ناک حادثہ تو نہیں ہے خدا را جلد فرمائیے دل ڈوب رہا ہے۔“

ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بلکہ ہر طرف مولائے کریم کا فضل شریک حال ہے۔ امور مملکت بھی قابلِ شکر ہیں۔ میری بے وقت کی آمد کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے اطمینان رکھو۔

یہ جواب سن کر زبیدہ کا اضطراب کچھ ہلکا ضرور ہو گیا۔ لیکن قدم رنجہ فرمانے کی وجہ اب تک سیغہ راز میں رہی۔ اس نے پھر دریافت کیا۔

”لیکن اتنی رات کو اچانک امیر المومنین کی تشریف آوری بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔“

ہارون رشید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا اضطراب حق بجانب ہے تم اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لو تو میں وجہ بتاؤں دراصل ایک خوش آئند واقعہ کی صرف تم سے تشریح کرانے آیا ہوں۔

ابھی ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لئے میری آنکھ لگ گئی اتنے ہی وقفے میں میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین و دلکش چمن کی سیر کر رہا ہوں۔ پھولوں کی رعنائی، بہاروں کی نکھت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر حیران ہوں۔ ہموار زمیں شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نئے جادو جگا رہے ہیں۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے۔

حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لعل و زمرد اور یاقوت و زبرجد کے بنے ہوئے ایوان نکاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے قریب سے جھللاتا ہوا نور کا ایک پیکر لطیف گزرا۔ اس کے نشان قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چہرے کی تابندگی سے گزر گا ہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔

آگے بڑھ کر میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہت تیزی سے وہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا۔ ”جنت الفردوس“

جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا اپنے نصیب کی ارجمندی پر ناز کرتا ہوں ہی آگے بڑھا سامنے بلند قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی۔ اس پر بخط سبز لکھا ہوا تھا ”زبیدہ خاتون“ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔

دروازے کے اندر داخل ہوا تو جس عمارت پر بھی نظر پڑی زبیدہ خاتون کا سرنامہ جھلک رہا تھا۔

دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ زبیدہ خاتون تو میری محبوب ملکہ کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آس ہی پاس میرا نام کندہ ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا۔ لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا۔

زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو۔ خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ راز بتا دو۔ جس نے جیتے جی تمہارا نام باغ فردوس تک پہنچا دیا ہے۔

زبیدہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ اس نے نظر نیچی کیے ہوئے جواب دیا مجھے اپنے نامہ زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں یاد آ رہا ہے جسے خدا کی اس عظیم الشان نعمت کا اجر قرار دوں۔

البتہ آج شام کو اچانک اپنے وقت کے مشہور مجذوب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نصیب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ویرانے میں اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے جمع کر

کے گھروندے بنا رہے تھے۔ کچھ دیر انہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر ان سے دریافت کیا۔ اے بہلول یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ جواب دیا جنت کا محل۔ پھر پوچھا بیچے گا؟ جواب دیا ضرور بیچوں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک درہم ان کی منہ مانگی قیمت ادا کی۔ انہوں نے ایک گھروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے کہا۔ جنت کا یہ محل میں نے زبیدہ خاتون کے ہاتھ پر بیچ دیا۔

ہارون رشید یہ سن کر بھڑک اٹھا اور جوش عقیدت میں بول اٹھا۔
یقیناً یہ انہیں کی زبان کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ روئے زمین پر یہ مقدس ہستیاں خدا کی شانِ رحمت ہی کا پرتو ہیں۔ ان کی پیشانی کی موجوں میں صفاتِ حق کا عکس نظر آتا ہے۔ کارکنانِ قضا و قدر ان کی زبانوں پر کلام کرتے ہیں۔ خلافتِ الہی کے منصب نے انہیں کونین کا فرماں روا بنا دیا ہے۔ بلاوجہ امتِ محمدی ان کے پیچھے نہیں دوڑتی۔

یہ کہتے کہتے ہارون رشید کالجہ بدل گیا۔ آواز بھرا گئی اور اس نے گزارش و التجا کے انداز میں کہا۔ تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے ان کی سرکار میں لے چلو نصیب کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار بن جاؤں۔

زبیدہ نے پرتپاک انداز میں جواب دیا ضرور چلے جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل کر کے میرے دل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔

صبح کا سہانا وقت تھا۔ رات ہی محل میں یہ خبر گرم تھی کہ بادشاہِ ملکہ کے ہمراہ سیروساحت کے لئے تشریف لے جائیں گے۔ طلوعِ آفتاب سے پہلے پہلے دونوں اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش کوئی آسان بات نہ تھی۔ ان کا مل جانا حسن اتفاق کا کرشمہ کہا جاسکتا تھا۔ سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں لگ سکا۔ تھکے ماندے شام کو محل واپس لوٹ آئے۔ پھر ایک دو روز کے وقفہ کے بعد ان کی تلاش میں نکلے اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد ناکام واپس آئے۔

اس طرح لگاتار کئی دن کی ناکامیوں کے بعد ایک دن پہاڑ کے دامن میں حضرت بہلول دانا مل گئے۔ آج بھی ان کا وہی عالم تھا۔ آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور دونوں جہاں

سے بے نیاز پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنانے میں منہمک تھے۔

زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا۔ نظر پڑتے ہی ہارون رشید پر لرزہ طاری ہو گیا۔
قدم اٹھانا مشکل تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گئی۔

اللہ اللہ! ساری دنیا جس کے دربار کی جلالت شان سے لرزہ بر اندام رہا کرتی آج ایک بے سرو سامان درویش کے سامنے خود اس پر لرزہ طاری تھا۔ ایک ہارون رشید ہی کیا۔
خاکدان گیتی کے کسی تاجدار کا یارا ہے کہ بیت حق کے آگے سراٹھا سکے؟

زبیدہ خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ذرا بھی مت گھبرائیے۔ یہ جلالت عشق کی
بیت ہے جس کی تپش سے کائنات کی نبض چل رہی ہے۔ اس کی سطوت کے سامنے
پہاڑوں کی فلک نما چوٹیاں بھی سرنگوں ہیں آپ بغیر کسی اندیشے کے ایک نیاز مند سائل کی
طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیے وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں۔ سلام کی آواز سن کر
آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

اس کے بعد آپ ان سے دریافت کرنا کیا کر رہے ہیں وہ جواب میں جنت کا محل
ضرور کہیں گے۔ پھر خرید و فروخت کی بات کیجئے۔ وہ اثبات میں جواب دیں گے پھر جو
قیمت بتائیں ادا کر دیجئے۔ اسی طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔

لرزتے کانپتے ہارون رشید آگے بڑھے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔
عشق کی دولت و اقبال کا یہ بھی عجیب و غریب منظر تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فرماں
روا آج ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا عالم محسوس میں یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی
تھی کہ عشق ہی کائنات کا اصل فرماں روا ہے۔ جاہ و حشمت کا چڑھتا ہوا سورج ہر جگہ سراٹھا
سکتا ہے۔ لیکن مستان عشق کی چوکھٹ پر پہنچ کر وہ سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد
ہارون رشید نے نہایت ادب سے سلام عرض کیا۔

جواب ملا۔ وعلیکم السلام

پھر دریافت کیا۔ اسے فروخت کیجئے گا؟

جواب ملا۔ ”ضرور“

قیمت دریافت کی تو یہ سن کر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔

”تیری پوری سلطنت جنت کی قیمت ہے۔“

دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر عرض کیا۔

حضور ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے کہ حضور کی کثیر زبیدہ خاتون بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے ایک درہم پر اس کے ہاتھ پر جنت فروخت کی ہے۔ ایک بیک قیمت کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ وہم و گمان سے باہر۔

حضرت بہلول دانا نے ایک پراسرار دانشور کے انداز میں جواب دیا۔ ”زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو۔ وہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی۔ اس نے صرف میری زبان پر ان دیکھی جنت کا یقین کر لیا۔ اینٹ اور پتھر کے گھروندے کو جنت کا محل سمجھنے کے لئے اسے اپنے مشاہدے کا انکار کرنا پڑا۔ نظر کے فیصلے سے جنگ کرنا پڑی عقل کی دریافت کو جھٹلانا پڑا اور جراتِ عشق کے یہ سارے مرحلے اس نے ایک آن میں طے کر لئے۔

اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جنت دیکھ کر آرہے ہو۔ بہاروں کی وہ صبح خنداں اور جگمگاتے ہوئے محلوں کا وہ جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ اس لئے تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاسکتی۔

یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ دراصل جنت کی قیمت درہم و دینار نہیں ہے۔ دل کا اُن دیکھا اور روح کا نادیدہ اعتماد ہے۔

عالم آخرت کی ساری فیروزبختی تو ایمان بالغیب ہی کی ہے۔ نہ دیکھو اور یقین کرو نہ سنو اور ایمان لاؤ۔ یہی تو اسلام کا سنگ بنیاد ہے۔

حرم کی دیواریں نہ بھی نظر آتی ہوں جب بھی اس کا احترام بجالانا ہر مومن کا شیوہ دین ہے۔ کونین کے آقا سرکارِ مجتبیٰ آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہیں ہیں۔ لیکن اہل دل سے پتہ چھو کہ خطہ ارضی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدم ناز کے لئے نگاہوں کا فرش بچھا رہتا ہے۔“

سرجھکائے ہوئے ہارون رشید سنتا جا رہا تھا اور چہرے کی رنگت دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کا راز فاش کر رہی تھی۔ اچانک آنسوؤں سے پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ دل کی آنکھوں کے پٹ کھل گئے۔ آخرت کا یقین سورج کی طرح چمکنے لگا اور چند روزہ وجاہت و سلطنت کا سارا خمار اتر گیا۔ بے خودی کے عالم میں گھٹنے ٹیک دیئے اور لجاجت کے ساتھ عرض کیا۔

”حضور! سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لئے تیار ہوں۔ جنت کا پروانہ عنایت

فرما دیا جائے۔“

عجز و درماندگی کی اس التجا پر حضرت بہلول دانا کا دل مہر و شفقت کے گداز سے بھر گیا۔ آپ نے اسی عالم میں جواب مرحمت فرمایا۔

جذب و سرمستی کے کیف و دوام نے مجھے دونوں جہاں کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا۔ دل تو بڑی چیز ہے سلطنت کے لئے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا یہ پروانہ بھی رکھ لے۔

درویش کا مقصود دل کو حرص و ہوس کی زنجیروں سے آزاد کرانا تھا۔ ایک درہم اور پوری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو کچھ ہے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے۔

ہارون رشید جب خلعت جاوید سے سرفراز ہو کر واپس ہوا تو زبیدہ خاتون نے دریافت کیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو جنت کے حصول پر مبارکباد دوں یا دل کے نئے عالم پر؟“

ہارون رشید نے جواب دیا۔
”والی کشور عشق کی سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے۔ دراصل عالم آخرت کے سارے اعزاز کی کلید یہی ہے۔“



بلخ کی شہزادی

شاداب وادی حسین کہسار اور دلکشا مناظر کے لئے بلخ کا سارا شہر سارے جہاں میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترآ۔ اس قافلہ میں ایک حسین و خوبرو جوان بھی تھا۔ گردشِ ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ شکستہ چہرہ ہن بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پژمرده صورت سے صاف آشکارا تھا کہ وہ اپنے وقت کا آشفہ حال مسکین ہے۔

بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے۔ لیکن نو جوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اُس نے ایک کٹیامالی اور وہیں رہنے بسنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیامالی لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوئے تھے۔

ایک دن شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کہسار کی چوٹیوں پر جھللا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی۔ کون اجنبی چلا آ رہا ہے۔ واپس لوٹ جاؤ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گل گشت کے لئے یہاں تشریف لائی ہیں۔

جونہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوہ محشر طراز نے دل کا کام تمام کر دیا ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوافقیر کا خرمن ہستی آن واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کینروں کے جہر مٹ میں آگے بڑھی۔ تلواریں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جاسکتی ہے۔ لیکن چشم سحر طراز کا ایک ہی تیر نیم کش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لئے کافی ہے۔

نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کتیا میں آ کر بیٹھ گیا۔

دل کا کلیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا۔ آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کا چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی کھل سکوت، کبھی باد صبا سے ہمکلامی، کبھی مناجات سحر گاہی، دیرانے سے انس، تنہائی سے پیار، یک بیک زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔

اسی عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنوں کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالاخر کچھ عرصہ کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔

اب فقیر پردہ ہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔

حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقب نے آ کر اطلاع دی۔ جہاں پناہ ایک فقیر قلعہ معلیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے پایگاہ سلطانی پر باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔

حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو چکنے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔

تمہاری کیا فریاد ہے؟

فقیر نے جواب دیا ”ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔“

دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا۔ جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے۔

”جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔

ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا۔

حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے۔ یہ لب کشائی کی جرأت چبہ تمہیں اپنی حیثیت کا انداز لگانا چاہئے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہئے۔

سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا۔

”یہ مجرم نہیں ہے اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لئے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جاسکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لئے ایک ہفتہ بعد آئے۔“

یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لئے ہوئے فقیر دربار شامی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لئے ایک ہفتہ کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے یہ دن کٹے۔

اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی غشاء سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے۔ یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔

جب ساتویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔

شہزادی کے لئے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار

پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ تمہارا پیغام بھی انہیں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔

وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں بے خودی کی حالت میں بول پڑا۔

فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے میں شرط پوری کرنے کے لئے اپنی متاع زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا!

وزیر نے کہا۔ شہزادی کی انگٹھی کے لئے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہئے اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔

فقیر نے جواب دیا ”اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برقی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔“

”خدا میری مدد کرے گا“ رات بھگ چکی تھی۔ سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا۔

اے دردمندوں کے چار ساز سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔“

صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان ختم گیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے دیرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لئے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع ناکات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔

چلتے چلتے ایک دن کہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیاںک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سر بفلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گھر گئی۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ لیکن خدا کی کار سازی پر اس کے دل کا مغلی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جونہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔

جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ تیشہ اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔

فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دھانے پر پہنچا دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشہ چلاتا رہا۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق رستہ نہیں بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار مہینہ چمک رہا تھا۔

فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔

پردہ نیب کے ساز پر فقیر کا دل مجھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے۔

ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شام کو وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔

وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا۔
”تم پھر آ گئے۔ حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ

شیوہ نہیں تھا۔

”برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شرط پوری کرنے آیا ہوں۔“

یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمک دار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسم تصویر حیرت ہٹا دیکھتا رہا۔ وعدہ کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمتناز ہونے کی گھڑی قریب آگئی ہے۔ لیکن وائے رے ناکامی قسمت! کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن ایک آخری شرط اور رہ گئی ہے اسے بھی پوری کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے۔ بالکل آخری۔

توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکا یک دل کی ساری انگلیوں کا خون ہو گیا۔ لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں پیہم ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھانی پڑے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوہ نہیں۔

پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا

”اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟“

وزیر نے جواب دیا ”شہزادی کے کان کے آویزوں کے لئے دو بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں۔ جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لئے بے مثال ہوں۔“

فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کئی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیاہت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تائیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا اسی عالم جنوں خیز میں کئی دن گزر گئے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا۔ لیکن قربان جائے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی

کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصہ کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم اُمید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر اُبل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شانِ رحمت کی چارہ گری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔

سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔

بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پایہ تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی ہوئی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی چکا چوند ہو گئی۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔

اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ مژدہ جانفرا کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا۔ پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔

تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں۔ لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گنہگار فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیونکر مٹایا جاسکتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنے جنوں خیز مطالبہ سے دست بردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔

وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا بچا کر رکھا تھا۔ اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ کہ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کینر نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی

بے ہوش ہو چکی ہیں۔ نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔

سارے محل میں کہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔

اس حادثہ پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیہ۔ پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی۔ اب امیدوں کی آخری لاش بھی اُسے اٹھانی پڑی۔

اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوار و آبدیدہ تھا۔ لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔

جب تک شہزادی کی تجھیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوئے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

افسوس کہ ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گل رعنا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت ہو گئی۔ رات کی زلف سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لئے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا تاج عشق نے اُسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔

آستین چڑھائے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنوں پرور یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کے مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی۔ اس لئے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو نئی کفن کا آئینہ نظر آیا اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشش ہوئی ہمتوں کے سہارے نعش کو باہر نکالا۔ کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں

بچ کر دم لیا اور کاندھے سے نعرہ اٹار کر نہایت حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔

اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لئے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔

آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جو نبی عرش سے ٹکرائی اچانک کتیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کتیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا۔ نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی۔

وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو۔ زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہے۔ شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ سکتے کی حالت طاری ہے!“
 زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا۔
 ”نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلوؤں پر اس کی مالش کرو۔

اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کی ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔

چند لمحوں بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔

طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے پکائے فوراً ہی ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔
 اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا۔

”میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ جلد بتاؤ۔ دماغ پاگل ہو رہا ہے۔“

فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔
 کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے۔ آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت

میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرہ سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کارفرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے۔

”پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔“

طیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ”تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ کے لئے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا!

یہ کہتے ہوئے طیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ چل رہے تھے۔

خداوند اتیری شان بندہ نوازی کے قربان یہیں میں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے۔ لیکن شہزادی نے اپنے دو بارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر نہیں ہونے دیا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لئے زندہ کی گئی ہے۔ اس لئے زندگی کا دائرہ عام وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔

خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لئے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی اور نہ وہ شاہانہ کروفہ کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام وعظ و تذکیر کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ہفتہ کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی

اداروں کا معائنہ کرنے کے لئے مخصوص تھا۔

آج ایک کتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیرم قدم کے لئے کھڑے تھے۔ جونہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک چار سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش محفلنے لگی۔ بالآخر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھالیا اور معلم سے دریافت کیا۔

اتنا روشن و دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے۔ یہ کسی ارجمند باپ کے جمن کا پھول ہے۔

معلم نے جواب دیا ”مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ ویسے ظاہری وضع قطع سے غریب و مسکین آدمی نظر پڑتا ہے۔“

بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیونکر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔

حاکم کا حکم تھا۔ مجبوراً دوسرے دن بچے کو بنا سنوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق ہی کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔

بادشاہ کے جذبہ عشق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھالیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی۔ رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا ملکہ دوڑی ہوئی خدمت

میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول اٹھی۔

”ذرا غور سے دیکھئے اس کی پیشانی‘ ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔“

بادشاہ نے جواب دیا۔ ”ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے۔ لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔“

”ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔“ میں مامتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کیا جائے۔ لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟“

بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ رائے قرین قیاس ہے۔“ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کیا تم اس کی اجازت دو گے؟“
فقیر نے جواب دیا ”ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارہ بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ جہاں پناہ۔ بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہیں گی۔“

”فقیر نے کہا میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں۔ کیونکہ مسکینوں کے لئے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔“

بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ”تم اس کی بھی فکر نہ کرو۔ ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہوا راضی کر لیں گی۔“

محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پاکی رکھی جاتی تھی۔ شاید

آج ملکہ کہیں جانے والی تھیں۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کردار کے ساتھ پاکلی آگے بڑھی۔

راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کتیا میں جا رہی ہے اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا۔

کچھ لوگوں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچنبھے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہوں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں۔ وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاج دار ہوتے ہیں۔ سو بادشاہوں کو غرض ہو تو وہ ان کے قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پاکلی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کتیا تک جانے والا راستہ نہایت پرچہ تھا۔ ایک خواجہ سرانے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کتیا سے گھرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پاکلی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔

خواجہ سرانے فقیر کو مطلع کیا کہ پاکلی میں ملکہ تشریف لائی ہیں۔ وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تخیلہ کر دو۔

یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہا سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا تھا۔ ارب۔ چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل ماؤف ہو گئی۔ خون سوکھ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز گئی۔ اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کتیا کے اندر ملکہ داخل ہوئیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی۔ دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہوا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی! شہزادی فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی۔

نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا۔ لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیونکر زندہ ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے۔ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ بیداری کا خواب ہے۔ یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔

پھر ملک نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چنچیں بلند ہوئیں کیا واقعی شہزادی ہو۔ میری لغت جگر ہو۔ میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟

شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یقین کیجئے میں سچ سچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفن دیا گیا تھا۔ کرمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ حیرت نہ کیجئے۔ عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ آئی ہے۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لئے زندہ کی گئی ہوں۔ شاہی محل کے لئے تانہوز مردہ ہوں۔

مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے۔ ”سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔

اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا۔ اب واقعہ کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی سپردال دی۔ اب بات کنیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ چار سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔

بادشاہ نے سنا تو فرط خوشی میں پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کنیا کی طرف چل پڑا تھا۔ قصہ مختصر کہ شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا تھا۔

کثرت اثر دھام سے راستوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے خیر مقدم کے لئے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بے تاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جونہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی۔ تحسین... کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگایا۔ سارے... دنی کے عالم میں خوشی۔ لیکن فقیر ایک رقت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار یاد رہا تھا۔ کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لئے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے۔ اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔

نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا۔ سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بادشاہ کا ولی عہد تھا۔ بلخ کا فرمانروا تھا۔ لیکن نہیں وہ اب بھی فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا۔

تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔



پاک دامن نوجوان

ایک مجاہد کی زندگی کا یہ رخ بھی کتنا عجیب و غریب ہے کہ ساری دنیا جینے کے اسباب فراہم کرتی ہے اور وہ موت کے لئے میدانوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ کئی سو برس کا عرصہ گزرا ملک شام کی سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں اسی طرح تین نوجوان رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ جو تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ شباب کی امنگوں کے دن تھے زندگی کی بہاروں کا موسم تھا۔ لیکن دل دیوانہ کو کون سمجھائے کہ اس کا عالم ہی ساری دنیا سے نرالا ہے۔ کوئی پھولوں کی انجمن میں سکون پاتا ہے۔ یہ ظالم کانٹوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ کسی کی رات نیند کی سرمستیوں میں بسر ہوتی ہے لیکن اسے تادمِ سحر آنکھ پھوڑنے ہی میں مزا آتا ہے۔

اتفاق کی بات ہے کہ تینوں بھائیوں کے سینے میں یہی دل دیوانہ تھا دیوانگیء زلف لیلیٰ کی نہیں تھی۔ ملت کے اعزاز و سربلندی کی تھی۔ شہادت و سرفروشی کی تھی۔ رضائے مولیٰ اور خوشنودی حق کی تھی۔ اس آرزو کی تھی کہ خون کا آخری قطرہ دے کر بھی اگر سرکار بطحاراضی ہو جائیں تو یہ سودا گراں نہیں ہے۔ ساری متاع ہستی لٹا کر بھی اگر نجات کا سرمایہ پروانہ مل جائے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی منفعت ہے۔

اسی جذبے میں یہ تینوں بھائی گھر سے نکلے۔ ہمراہ جینے کا سامان کم، موت کا سامان زیادہ ہاتھ میں تلوار سر پر کفن بازو میں کمان شانے میں ترکش اور دل میں شہادت کی امنگوں کا جذبہ ابل رہا تھا۔ آرزوئے مقصود کی تلاش میں شبانہ روز چلتے رہے۔ منزلوں پر منزلیں بدلتی رہیں لیکن شوق کے طوفان کا تاظم ابھی کم نہیں ہوا۔

سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی

تھیں۔ شفق کے دامن میں لالہ کی سرخی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے مسافر اپنی منزلوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ شام کی سیاہی گیسوئے جاناں کی طرح ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اور تینوں جانوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے کسی ہموار زمین کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس لئے نہیں کہ لیٹ کر تھکن دور کر لی جائے۔ بلکہ اس لئے کہ مالک بے نیاز کے سامنے ماتھا ٹیک کر روح کی پیاس بجھائی جائے۔

کافی دیر کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسمان پر کند ڈالنے والوں کے لئے وہاں تک پہنچنا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ گئے اب نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔

چھوٹا بھائی جونہی اذان دینے کے لئے کھڑا ہوا کہ قریب سے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی پر جلال آواز کان میں آئی۔ یہ آواز سنتے ہی بڑا بھائی وارفتگی شوق کی بے خودی میں اُچھل پڑا بے ساختہ منہ سے آواز نکلی۔ ہماری بیتاب آرزوؤں کی سراغ مل گیا اب ہماری محنت سفر وصول ہو جائے گی۔ منزل مقصود قریب آگئی ہے۔ شاید؟ بڑے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کر چھوٹے بھائی نے اچھبے سے دریافت کیا۔ بھائی جان! آپ کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آرہی ہے؟ بڑے بھائی نے مشفقانہ انداز میں جواب دیا۔ میرے عزیز! یہ مجاہدین اسلام کا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ جس میں شریک ہونے کی تمنا ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ کہسار کی وادیوں میں سوائے مجاہدین کے اور کون نماز کھڑی کر سکتا ہے؟ غالباً اسی پہاڑ کی جانب سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے۔ آؤ! پہلے نماز پڑھ لیں اس کے بعد سراغ لگالیں گے چھوٹے بھائی نے نہایت پر شکوہ اور دردناک لہجہ میں اذان دی۔ اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کی گئی سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تینوں بھائی پہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی تلاش میں نکلے۔

چاندنی رات تھی اس لئے پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تینوں بھائی چومک کر کھڑے ہو گئے اور ہتھیار سنبھال لئے۔ نظر اٹھی تو سامنے دو عربی سوہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب پہنچ کر دونوں نے بلند آواز سے کہا۔

”السلام علیکم“ بھائیوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! کیا ہم دریافت

کر سکتے ہیں آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آرہے ہیں؟ اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے نہایت لجاجت سے پوچھا۔

ہم لوگ ملک شام سے آرہے ہیں۔ خدا کی راہ میں گھائل ہو کر جان دینے کی آرزو ہمیں یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ میدان کارزار کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں صحراؤں بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھانتے ہوئے کافی دن بیت گئے لیکن کہیں سراغ نہیں ملا۔ ابھی مغرب کے وقت پہاڑ کی دوسری جانب سے آذان کی آواز سن کر دل نے گواہی دی ہو نہ ہو قریب ہی کہیں اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہے اس جستجو میں جارہے تھے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگئی۔

خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار گھوڑے سے اتر پڑے اور اسلامی تہذیب کے مطابق معانقہ اور مصافحہ سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ آذان کی آواز سن کر ہم بھی اسی غرض سے نکلے تھے۔

آپ حضرات کی مجاہدانہ امنگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے۔ خدائے قدیر مسلمان نوجوان کو اپنے دین کے لئے اسی طرح کی سرفروشی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان کی یہی تپش ملت اسلام کی نبض کو پرسوز اور متحرک رکھتی ہے۔ جس قوم میں آپ جیسے فلک پیا ہمت رکھنے والے مجاہد ہوں۔ اس کا پرچم سرنگوں نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی سرحد پر ایک بڑا ہی المناک معرکہ پیش آ گیا ہے۔ مسیحی قوم کی ساری قوتیں چاروں طرف سے کمئی آرہی ہیں۔ دین حق کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے عیسائی دنیا کے سارے سورا میدان میں اتر آئے ہیں۔ چالیس ہزار صف شکن بہادروں پر ہمارا لشکر اسی پہاڑ کے عقب میں ٹھہرا ہوا ہے اور آج ہی رات کو پچھلے پہر روم کی سرحد کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عربی سواروں کی زبان سے یہ خبر سن کر تینوں بھائی فرط شوق میں جھوم اٹھے۔ میخانہ کوثر کی شراب آنکھوں سے ٹپکنے لگی۔ شہادت کی خوابیدہ انگلیں انگڑائی لے کر جاگ اٹھیں۔ سواروں کی راہنمائی میں جونہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے۔ بے ساختہ منہ سے نعرہ تکبیر کی آواز نکل پڑی۔ لشکر نے نعرے کا جواب پر جوش نعرے سے دیا۔

تین نئے مجاہدین کی آمد پر سارے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے ان کے

قدموں کے نیچے دلوں کا فرش بچھا دیا۔ سپہ سالار نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا دعائیں دیں اور دینی ولولوں کی تپش معلوم کر کے مبارکباد کا ہدیہ پیش کیا۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کا اعلان ہوا اور دم کے دم میں کہسار کی وادیاں خالی ہو گئیں۔ دریاؤں پہاڑوں اور صحراؤں کو روندتا ہوا اسلامی لشکر امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ سطوت جلال کی ہیبت سے دھرتی کا سینہ دھل اٹھا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آج حرکت میں آ گئی تھی۔ اسلام کی غیرت نے ایسی انگڑائی لی تھی کہ بڑے بڑے سورماؤں کا کلیجہ دھک سا ہو گیا۔ شبانہ روز چلتے چلتے روم کی سرحد کا فاصلہ جب چند میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لئے سپہ سالار نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لئے پچاس مجاہدین پر مشتمل جو دستہ تیار کیا گیا۔ اس میں تینوں بھائی بھی شامل تھے۔ کیونکہ انہیں پہلے سے روم کے متعلق واقفیت حاصل تھی۔

یہ چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگلوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک رومیوں کے ایک لشکر سے ٹک بھڑ ہو گئی۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ نیزے حرکت میں آ گئے اور مٹھی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑا تینوں بھائی بجلی کی طرح کوندتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے قلب لشکر تک پہنچ کر وہ رومی سپہ سالار کا حلقہ توڑنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کند پھینک کر انہیں گرفتار کر لیا لڑائی ختم ہونے کے بعد انہیں جنگی قیدیوں کی طرح پابجوالاں رومی اپنے ہمراہ لے گئے اس بہادر اقدام اور حوصلہ شکن مقابلہ سے اسلامی لشکر کی کچھ ایسی دھاک دشمن کے دل پر بیٹھ گئی کہ وہ جنگ کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ بلاخر کئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی لشکر کو حجاز کی طرف واپس لوٹ آنا پڑا۔

آج تین قبریوں کے فیصلے کا دن تھا روم کا عیسائی بادشاہ جونہی دربار میں آ کر بیٹھا۔ جلاد نے تینوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے چہرے پر خوف و دہشت کا مطلق کوئی اثر نہیں تھا۔ انجام کی فکر سے بے پروا وہ بھرے دربار میں مطمئن کھڑے تھے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا تم ہمارے ملک پر حملہ کرنے آئے تھے لیکن قبل اس کے کہ تمہارا خوفناک منصوبہ پورا ہوتا تم گرفتار کر لئے گئے۔ اب اس جرم کی سزا سوائے موت

کے کچھ نہیں۔ لیکن تمہارے خوشنما چہروں اور حسین جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ ایک شرط مان لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ جان بخشی ہی نہیں شاہی دربار کا بڑے سے بڑا اعزاز تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔

بڑے بھائی نے بھرپور شان بے نیازی سے دریافت کیا۔ وہ شرط کیا ہے؟“
 ”بادشاہ نے جواب دیا۔“ بہت معمولی شرط ہے صرف اپنا مذہب تبدیل کر دو۔ اسلام کو چھوڑ کر دین عیسوی قبول کر لو اسلام کے غیور مجاہد نے پر جلال آواز میں بادشاہ کو مخاطب کیا۔ ”افسوس تمہاری دانائی پر“ شرط زندگی کو تم معمولی شرط کہتے ہو۔
 جس مذہب کے فروغ کے لئے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سر رکھ لیا ہے اسے چھوڑنے کی بات کس درجہ مضحکہ خیز ہے۔

تم نے ہمیں موت کی دھمکی دی ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ کافی محنتوں کے بعد ایک میدان ہاتھ آیا بھی تھا تو شاید مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہم گرفتار کر لئے گئے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کر تم ہمارا ضمیر نہیں خرید سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے۔ کہ ہمارے تئیں قافلہء حیات کی منزل تحت سلطانی نہیں ہے اس کا سانچہ تو ہمارے قدموں کی ہر ٹھوکر پر بنتا بگڑتا ہے۔ ہماری قومی سرگرمیوں کا مرکز صرف اپنے محبوب کی خوشنودی ہے۔

نوجوان نے جذبات کے تلاطم میں شراہور ہوتے ہوئے کہا ”اے خوشانصیب! کہ وہ ارجمند ساعت اب قریب آگئی ہے۔ عالم قدس کی طرف جانے والے مسافر تیار کھڑے ہیں اپنے جلاوطن کو حکم دو کہ دیر نہ کریں۔ تلواروں کی چھاؤں سے جنت کا فاصلہ صرف ایک قدم ہے۔

ایک قیدی کے اس جرات آمیز بیان پر دربار میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ عیسائی بادشاہ غصے سے دانت پیسنے لگا۔

فرط غضب میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے کہا ”گستاخ و دریدہ ذہن کی طرح زبان کھول کر تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو تیار ہو جاؤ! شاہی دربار کی یہ توہین ہرگز برداشت نہیں کی جاسکتی۔ فولاد کی زنجیروں میں بھی تمہارا حق پرستی کا ثرور کم نہیں ہوا۔ تلواریں معزز بہادروں پر اٹھا کرتی ہیں تم جیسے گستاخوں کی موت کا سامان تلوار نہیں آتا۔

ہے۔

غصہ میں کانپتے ہوئے اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ دہکتی ہوئی آگ پر تیل سے بھرا ہوا کڑھاؤ چڑھا دو جب وہ ابلتے ہوئے چشمے کی طرح کھولنے لگے تو مجھے فوراً خبر کر دو۔
بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی سامنے کھڑے تھے۔ جلادوں کا دستہ حکم کی تعمیل کے لئے اٹنے پاؤں رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نقیب نے آکر آواز دی جہاں پناہ! دہکتی ہوئی آگ پر تیل کا چشمہ ابل رہا ہے۔ گستاخوں کے عبرتناک انجام کا تماشا دیکھنے کے لئے کرسیاں مقتل کے سامنے بچھا دی گئی ہیں۔

یہ اطلاع پا کر عیسائی بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اٹھا۔ پیچھے پیچھے نگلی تلواروں کے سائے میں اسلام کے شہزادے بھی مقتل کی طرف رواں تھے۔ آگ دہک رہی تھی آنچ اور تیز کر دی گئی تھی۔

قیامت خیز طغیانی کی طرح تیل کا چشمہ پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ کرپان کی طرح بنے ہوئے دو کھمبوں کے بیچ سے ایک موٹی سی لٹک رہی تھی۔ اس میں گردن کی گولائی کے برابر ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔

سب سے پہلے جلادوں نے بڑے بھائی کی گردن میں سی کا پھندا ڈالا اور جیسے ہی اسے کھینچنا چاہا دونوں بھائی چیخ اٹھے۔ پہلے ہمیں تیل میں ڈالا جائے۔ بڑے بھائی کا جلنا ہم سے دیکھنا نہ جائے گا۔

بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبر و ضبط سے کام لو۔ کھولتے ہوئے تیل کے قریب ہی چشمہ کوثر کا دھانا ہے۔ ایک ہی غوطہ وہاں تک پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ لب کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ خبردار! گھبرا نا مت! دہکتی آگ کے پیچھے ہی جنت ہے۔ اچھا خدا حافظ!

بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلادوں نے سی کھینچی۔ دین کا ایک سرفروش مجاہد اب اوپر اٹھ رہا تھا۔ تصور جاناں میں آنکھیں بند تھیں۔ شاید مقصود سے ہمسکار ہونے کی خوشی چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ فرشتگان رحمت عالم قدس کی گزرگاہوں پر ہر طرف کھڑے تھے۔

وہ کے مقابل پہنچ جانے کے بعد جلاد نے سی ڈھیلی کر دی۔ شاخ طوبیٰ کا آشیاں نشیں اب نیچے اتر رہا تھا۔ آتش نشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اچانک فضا میں کلمہ شہادت کی آواز گونجی۔ آگ کی بہاؤں میں قدم رکھتے

ہوئے ایک بار ”یا محمد“ کا نعرہ رسالت بلند ہوا۔ ایمان پر خاتمے کی علامت کی طرح یہ ایک وفادار مجاہد اور ایک سچے مومن کا آخری نعرہ تھا۔ چھوٹے بھائی اس ہولناک منظر کی تاب نہ لاسکے۔ فرط الم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بے خودی میں منہ سے ایک چیخ نکلی ”بھائی ساقی کوثر کے حضور ہمیں نہ بھولنا۔ آنکھ کھلی تو منزل قدس کا مسافر عشق کے سمندر میں غوطہ کھا چکا تھا۔ فرشتے اس کی مقدس روح کو رحمت و نور کے جہر مٹ میں لئے عالم بالا کی طرف کو پرواز تھے۔ کلمات ہوئے پھول کی طرح جلی ہوئی لاش تیل کی سطح پر تیر رہی تھی۔ لیکن شاداں و فرحاں روح ساقی کوثر کے حضور میں خلعت شاہانہ سے سرفراز ہو چکی تھی۔

اب بچھے بھائی کی باری تھی رسی کا پھندا گلے میں ڈالتے ہوئے جلاد نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، تنہائی، غریب الوطنی اور بے کسی کی اداسیاں سوکھے ہوئے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں۔ غم کی چوٹ سے پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے بچھے بھائی کو الوداع کہا۔ یہ منظر جب تک دیکھ سکا دیکھتا رہا جب نہ دیکھا جاسکا تو آنکھیں بند کر لیں، پھر کلمہ شہادت کی آواز گونجی، پھر ”یا محمد“ کا ایمان افروز نعرہ بلند ہوا اور چند ہی لمحوں کے بعد مدتوں کی پیاسی روح چشمہ کوثر کے ساحل پر جام رحمت سے سیراب ہو گئی۔

اٹھارہ برس کا ایک نوجوان مجاہد حسن و جمال کا پیکر زیبا، روشن پیشانی، سرگمیں آنکھیں، دھمکتا چہرہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ نئی عمر میں دو بھائیوں کی تڑپتی لاشیں نظر سے گزر چکی تھیں۔ دل غم سے نڈھال اور شکستہ حال ہو چکا تھا۔ لیکن ایمان کی غیرت اسی طرح تازہ دم تھی۔ اسلام کے جذبہ وفا پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ جب اس عالم ہی سے منہ پھیر لیا تو اب اس زندگی کے ارمانوں کی کہاں گنجائش رہ گئی تھی۔ قاتل نے بڑھ کر پھندا ڈالا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، دل خیالِ جاناں کی محویت میں ڈوب گیا۔ اوپر اٹھانے کے لئے رسی کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ مملکت کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت لجاجت سے بادشاہ کو عرض کیا۔

جہاں ناہ! یہ کس نوجوان تنہا رہ گیا ہے۔ صورتِ شکل میں یہ چالاک معلوم نہیں ہوتا نہایت معصوم سا ہے آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جاسکتا ہے۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ چالیس دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لئے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی۔ اشارہ کرتا

ہی جلاد نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹ آنا پڑا۔

مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا۔ لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری ارجمند موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی۔

دیکھو! اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پر تکلف کمرے میں ٹھہراؤ! زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کینروں کے جھرمٹ میں شہزادی آداب بجالانے کے لئے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی۔ آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھرم رکھ لیا جائے گا۔

شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر کینر جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی لیکن حکم کی صورت حال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ تین جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے وہ تینوں آپس میں لگے بھائی تھے۔ ان میں سے دو آج موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جو ایک نہایت خوبصورت اور بڑا ہی نکیل دکش نوجوان ہے۔ اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا ہے۔ کہ میں چالیس دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو روم پر میرے حسن تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا۔ چالیس دن کی مدت بہت طویل ہے اسے دام فریب میں لانا میرے چند لحوں کی بات ہے۔ تعجب سے ایک معمولی بات کے لئے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے۔

رات ڈھل چکی تھی۔ سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ طراز اداؤں کی مجسم ساحرہ وزیر کی شہزادی اٹھی۔ زرنکار جوڑے زیب تن کیے بال سنوارے نظر کی تیغ پر پانی چڑھایا اور سامان قتل سے پوری طرح آراستہ ہو کر اس کمرے کا رخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جونہی اندر داخل

ہوئی۔ نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی رہی وہ روتا رہا رات ڈھلتی رہی۔ وہ روتا رہا چشم التفات کی امید میں بیٹھے بیٹھے سحر ہو گئی اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود جدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔

جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پہ شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں وہ اپنی خواب گاہ کی طرف لوٹ گئی۔

دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جلو میں لئے ہوئے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کھڑا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حسن مغرور آج بھی خراب و حسرت حالت سے واپس لوٹا۔

تیسرے دن سرشام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی خوشی میں چل گئی آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ تین دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔

ساحرانہ اداؤں کے ساتھ جونہی وہ آگے بڑھی نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔

آج بھی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے اسی طرح ہفتوں گزر گئے۔ حسن بے نقاب چل چل کر رہ گیا۔ لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چالیس دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا۔ نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے ہیں۔ ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے ٹھکت خوردگی کے انداز میں جواب دیا وہ تو ہر وقت اپنے خدا کی عبادت ہی میں محو رہتا ہے۔ بات کرنا تو بڑی بات ہے اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے مزید اور چالیس دن کی مہلت حاصل کر لیجئے۔ آخر وہ فرشتہ نہیں۔ ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ کرتا رہے گا کبھی نہ کبھی وہ شکار ہو کر رہے گا۔

چالیس دن کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کو نوجوان کی بے نیازی محویت اور قلب و نظر کی طہارت کا وہی حال تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش کب تک چل سکتی تھی۔ آخر ایک دن فریب کا سارا طلسم

نوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و زہد نو جوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات کی بھرپور تنہائی میں آج بھی شہزادی نو جوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی ہوئی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی۔

پاک دامن نو جوان! میں اس مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عصمت بچ کر اپنے لئے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ ملتجی ہوں کہ مجھے اسلام کے اس پاک دین میں داخل کر لیجئے۔ جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صداقت و روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مال و ذر اور عفت و ناموس کی رشوت دے بھیلنے والا مذہب دنیائے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نو جوان نے نظر نیچی کیے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ توحید و رسالت کا اقرار کرایا اور اسے حلقۂ اسلام میں داخل کر لیا۔

مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہئے۔ ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لئے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے وہیں نکل چلیں۔ ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیں گے۔ نو جوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آگے نہیں پیچھے چلنا ہوگا۔

دوسرے دن جب کہ رات ڈھل چکی تھی سارا محل نیند کی آغوش میں شرابور تھا۔ دو تیز رفتار گھوڑے محل کے عقبی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں دو سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔

آبادی سے باہر نکل کر یہ آواز تیز ہو گئی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑے سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ آگے آگے نو جوان اور پیچھے پیچھے شہزادی چل رہی تھی۔ ابھی رات بہت باقی تھی۔ شہر سے کافی دور نکل آنے کے بعد گھوڑوں کی رفتار دھیمی کر دی گئی۔

اب آہستہ آہستہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے یہ سوار گزر رہے تھے۔ جونہی راہ گزر کے دھانے تک پہنچے۔ قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔ دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ شہزادی نے کہا

معلوم ہوتا ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آرہے ہیں۔ نو جوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنے والے اگر بری نیت سے آرہے ہیں۔ تو میری تلوار ان کے راستے میں حائل ہوئے بغیر نہیں رہے گی اور اگر وہ صرف رہ گیر ہیں تو ہم سے کوئی چھیڑ نہیں کریں گے۔

دو پہاڑوں کے درے سے باہر نکلنے کے بعد نو جوان ایک عجیب و غریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے ساختگی میں منہ سے چیخ نکل پڑی۔

بھائی جان! کئی روز گزر گئے آپ حضرات کو جام شہادت نوش کئے ہوئے آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زندوں کی طرح ہماری دنیا میں پلٹ کر آ سکتے ہیں؟

بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شہیدوں کا حال عام مردوں سے بالکل مختلف ہے۔

وہ جہاں اور جس برزخ میں جانا چاہیں جاسکتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مرحوم بھائی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عالم بالا میں تمہاری طہارت اور پاکدامنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا عقد نکاح نو مسلمہ شہزادی سے کر دیں۔ شہیدوں کی یہ پاک روہیں تمہاری بزمِ نکاح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں شہزادی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ عالم غیب سے آنے والوں کا یہ قافلہ دیکھ کر اسے اسلام کی کائنات کے اقتدار کا یقین اور بڑھ گیا۔ جلدی جلدی بزمِ نکاح منعقد ہوئی۔ ارواحِ طیبات کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی۔ خطبہ نکاح کے بعد تمام روحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ بھائیوں نے دولہا اور دولہن پر جنت کے پھول نچھاور کیے اس کے بعد روحوں کا یہ سارا مجمع دم کے دم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب محرم آنکھوں کے نظارہ کے لئے شہزادی نے چاندنی رات میں نقاب الٹ دیا۔ پہلی بار چہرے پر نو جوان کی نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ جنت سے حسن و لطافت اور ملاحیت و زیبائی کی کوئی حور اتر آئی ہے۔

”دل دیوانہ“ دو حیرتوں کے نشانہ سے ابھی ہٹا نہیں تھا کہ فضاؤں میں یہ آواز گونجی ”جنت کی بارات جنت کا دولہا اور جنت کی حور مبارک ہو۔“

چودھویں رات کی دوشیزہ

کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے۔ جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔

تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرونو جوان تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا اس کا باوقار و حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے۔ بات کرتا تو موتی لٹاتا۔ مسکراتا تو پھول برستے، کتنے سینوں میں اس کی ایک نگہ التفات کی آرزو چل چل کر دفن ہو گئی لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک صالح پاکدامن اور اسلام کے غیور نو جوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گریہ و مناجات کی لذتوں نے اسے سحر خیز بنا دیا تھا۔

بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضریٰ کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ صلوٰۃ و سلام کی محفلوں میں اس کے سوز و گداز اور محویت شوق کا عالم بڑا ہی رقت انگیز مزارات اولیاء اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا گہرا انس کسی تلقین کا نتیجہ نہیں تھا۔ خود اس کے ضمیر کی آواز تھی۔

جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا آفتاب کی ٹکیہ پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کے بے پایاں وسعتوں پر رات کا گہرا اندھیرا چھا گیا۔

آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا۔

وہ دیکھو! سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ!!

دیکھتے ہی سارے جہاز میں کہرام برپا ہو گیا کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی۔ جڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلق اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو!

یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشہ نالہ و فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔

اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورت حال کا مقابلہ کر رہا تھا اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔

نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور

شدت اضطراب کے ہجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرائے کا جھٹکے محسوس کیا پھیلے ہوئے جڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔

خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔

نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گرمی کا یقین ہو گیا دہان مرگ سے صحیح و سلامت نکل آنے پر اسے بے پایاں مسرت حاصل ہوئی نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لئے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا اب اسے اپنے بیہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا۔ آنکھیں کھل گئیں۔ چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے صورت حال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا لیکن اس وقت ہم لوگو بحر ظلمات سے تین دن کی مسافت پر ہیں یہ خبر سن کر سارا قافلہ

ششدر رہ گیا۔

نوجوان فرط خوشی میں چیخ پڑا۔ خدا اور رسول کی شان دست گیری کے قربان خطرے کی زد سے نکالنے کے لئے تین دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرادی گئی۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی رہ گزر پر چلنے لگا رات بھر چلتا رہا پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔

قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج پچیسواں واں دن تھا دوپہر ڈھل چکی تھی اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آرہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لئے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ آنے والے طوفان بلا خیز میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویش ناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لئے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی جونہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا ماتم دغاں کا شور ہواؤں کی گرگراہٹ میں دیتا جا رہا تھا بادبان کی دھجیاں بکھر گئیں ترسول کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اچانک ایک موج بلا خیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لئے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا۔

نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد اہ کا نعرہ لگایا تھا یہ نعرہ رائیگاں نہیں گیا پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا تختے سے ہاتھ نکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔

اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یونہی اس ناپید کنارہ سمندر میں بہتا رہا اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے موجوں کا تھپڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔

رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہو گیا عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس ماؤف ہو گئی تھی چلنے کی سکت باقی نہیں تھی بازو بھی حرکت کے قابل نہیں رہ گئے تھے کافی دیر تک سورج کی دھوپ میں سینکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔

دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ضعف کا احساس دم بدم بڑھتا جاتا تھا خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں مل سکی جب چلنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تو تھک بار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا وہ آبدیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہیں درخت کے پاس پہنچ گیا شاخیں زمین تک لٹک رہی تھیں اس لئے پھلوں کے توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں پیش آئی رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا ہی۔ چمک کر

دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔

دوپہر ذہل چکی تھی اور کچھ عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آجائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔

اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا شعور کا چراغ بجھنے لگا۔ رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا رات آئی اور گزر گئی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا اس کے نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطہ انجماد کی طرف اترتی آرہی تھی اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔

دھوپ تیز ہو گئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا گھنی اور پر پیچ جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔

دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار ذہین اور سن رسیدہ حکیم تھا لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا نبض پر ہاتھ رکھا آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔

سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا چند ہی لمحے کے بعد نو جوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔

حواس اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور ماؤف تھی حکیم

نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی دو چار پتیاں نکالیں اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا قطرے کا حلق سے اترنا تھا کہ نو جوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔

تھوڑی دیر کے بعد دو چار قے ہوئی اور سارا زہریلا پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کے شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نو جوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی۔ ضعف و نقاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہ تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھا۔

اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا گزند تک نہیں پہنچا حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بیحد مسرور تھا اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی اسے ایک نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوک قلم سے اس درخت اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا۔ یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔

حکیم نے نو جوان کو بتایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے یہاں سے تین پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لئے میری مہمانی قبول کرو۔ اسپن کی طرف سے سودا گروں کے جہاز آتے رہتے ہیں۔ ایک دو مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نو جوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔

آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نو جوان بے حد مسرور تھا

نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ وہی میرا غریب خانہ ہے باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینا کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحہ ایک زہرہ جمال لالہ رخ سرا پا قیامت دو شیرہ سامنے کھڑی تھی۔

حکیم نے کہا..... بیٹی! آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے یہ! نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔

حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارات میں کسی طرح کی فردگزاشت نہ ہونے پائے گی۔

فارینا نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر حلال دیکھا تھا نوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کے رہ گئی۔

آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ نوجوان نے حکیم سے کہا سورج ڈوبنے کے بعد پھر ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر ہاتھ منہ دھو کر اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہے۔ وہیں پر سنگ مرمر کی چٹان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔

فارینا کے لئے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی جب تک وہ نماز میں مصروف رہا دور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ دوپہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خوشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا تالاب میں وضو

کیا اور نماز تہجد کی روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی نماز صبح سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا پھر ظہر کے بعد سے نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر مہمان ہوئے لیکن دفورحیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی کبھی اس نے فارینا سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔

اب رفتہ رفتہ فارینا کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی۔

ظالم! آدمی ہے یا پتھر کی چٹان؟ ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لئے تیار ہیں اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا سحر اب بے اثر ہو گیا؟ دلوں کے کشور میں میرے فتنہ شباب کی غارت گری کیا بلا وجہ مشہور ہے؟ نہیں! ایسا نہیں ہے! میری عشوہ طرازیوں کی تلوار زنگ آلود نہیں ہوئی ہے میری ترکش کا تیر آج بھی بے خطا ہے میری حشر برپا رعنائیوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ یہی شخص۔ انسانوں کی پر سوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔

پھر سوچتی ہے.....

”نہیں میرا خیال غلط ہے یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوہ نہیں ہے۔ لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا چہرہ مہرہ انسانوں جیسا ہو لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں ڈھلی ہوئی ہے۔“

چند ہی دنوں کی مدت میں نوجوان کی پارسائی، شرافت و نیک نامی اور زہد و عبادت کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا تھا۔ اس کے عارض تاباں شباب رعنا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے عشوہ ناز کا غرور توڑ چکا تھا اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگہ التفات کے لئے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا اسے اسلام عزیز تھا۔ اسلام کی برتری اور نیک نامی عزیز تھی اور بس۔ اس کے قیام کو ایک

ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکا یک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ جاتا حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ رہتے محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔

ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینا بچھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا وہ صدمہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیزہ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔

آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے ازراہ کرم میری حیرت کا ازالہ کیجئے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے مجھے فوراً بتائیے۔ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گرنے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلائی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز حیرت افزا اور انسانیت سوز واقعہ کی اطلاع دی۔

کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کہرام کیوں مچا ہوا ہے غم کا تلاء طم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔

ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے اب سے پہلے نو بار سمندر کے ہولناک تلاء طم میں غرقاب ہو چکا ہے جب جب اس شہر پر تباہی آئی یہاں کے باشندے اپنا املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا کہ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے۔ لیکن وائے افسوس! کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سراٹھائیں، ہوئے شہر پناہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں اور چند گھنٹے میں گزرنے پائے کہ شہر سمندر کی باخیز موجوں کے نیچے صفی ہستی سے غائب ہو گیا۔ دسویں بار جب جزیرے کی سب سے اونچی جگہ

پر یہ شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا یہ معلوم کر کے شہر کے راجہ نے اب جادوگر سے درخواست کی کہ وہ کوئی بھی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجہ کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے اگر اسے عمل میں لانے کا وعدہ کیجئے تو میں بتاؤں۔

راجہ نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالاتر ہے۔ ضرور وعدہ کر لیا جائے۔ راجہ کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر چالیس قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے جس کی قد آدم کھڑکیاں پچھم کی طرف کھلتی ہوں اور اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو۔ مندر کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہر چھ مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین چودھویں رات میں مندر کے اندر مقفل کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش جس کی ”دوشیزگی“ زائل ہو چکی ہوگی مندر سے نکال کر سمندر میں بہادی جائے چونکہ راجہ قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا اس لئے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔

حکیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کو بیس برس سے زائد ہو گئے اس وقت سے آج تک ہر چھ مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لئے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی رو سے نہایت ضروری ہے۔

دستور کے مطابق ہر چھ مہینے پر چاند کی بارہ تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعہ جان اور عصمت کی بھیٹ چڑھانے کے لئے شہر کی دوشیزاؤں میں سے کسی کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ یہاں چچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی آنکھیں دھندلا آئیں۔ صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی تو منہ سے چیخ نکال پڑی۔ نوجوان نے غمگسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر اسے تسلی دی کافی دیر کے بعد

جب کچھ افاقہ ہوا تو حکیم سے یہ سوال کیا۔

تمہاری اس پوری داستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے۔ کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے یہاں صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے۔ حکیم نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا وہی بات تو منہ سے نہیں نکل رہی ہے۔ سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے تم جانتے ہو کہ میری جواں سال بیٹی فارینا مجھے کتنی لاڈلی ہے ہمارے چمنستان آرزو کی تنہا وہ ایک مہکتی ہوئی کلی ہے اس کے چہرے کی روشنی سے میرے گھر میں امیدوں کا چراغ جلتا ہے بائے اب ہم اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے۔

نوجوان نے حیرت سے پوچھا خدا خیر کرے اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمے کا افسر یہ اطلاع دے گیا ہے۔ کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینا کا نام نکل آیا ہے۔ کل چودھویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پاکی دروازے پر لگ جائے گی اسے دولہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے۔

بائے میری فارینا! یہ الفاظ فضا میں گونجے اور حکیم صدے کی شدت سے بیتاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لئے اس کے منہ پر پانی چھڑکا اور کچھ پڑھ کر دم کیا اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جب کچھ حالت سنبھل گئی تو نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل کی اتھاہ ہمدردیوں کے ساتھ اس سے یوں مخاطب ہوا۔ میرے محسن تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے یقین رکھو اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ صرف میری ایک پیش کش قبول کرلو۔ دو ہی چار جموں میں حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا۔ حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا۔

”میں تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کر سکتا ہوں؟“

نوجوان نے جواب میں کہا ”تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پاکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینا کے عوض مجھے بٹھا دینا۔“

حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا۔

”ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا!۔ فارینا کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں لیکن اپنی غیرتوں کی اش پر تباہ زیت مجھے ماتم کرنا ہوگا۔ میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھیٹ چڑھاؤں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبہ میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔

نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

”میرے غمگسار میزبان! میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جوتلوار ہے اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس تلوار سے چشم زدن میں بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو۔ لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی پرسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دور نہ شروع ہو جائے۔

حکیم نے استعجاب کے ساتھ دریافت کیا۔

”کیا واقعی تم اس مہیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ گے جس نے نو مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے اور سینکڑوں عفت مآب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہیمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہمارے قیاس سے باہر ہو گیا ہے۔“

نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔

”معزز حکیم! اطمینان رکھو! ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرا لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہے حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لئے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔

نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی امیدوں کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا اور گھر کے صحن میں دوڑ پتی ہوئی جانوں کو یہ مژدہ جاں فزا سنایا۔

ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا۔ لیکن فارینا کی رات انتہائی بے چینی میں گزری نوجوان کے لئے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کی قطعاً وہ

کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی فکر میں غلطاں و پیچاں رات بھر وہ کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نو جوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے۔ لیکن نو جوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔

آج چودھویں رات تھی لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط ہو گیا تھا۔ شہر کے ہزاروں نو جوان فارینا کے غم میں تڑپ رہے تھے۔ ہر گلی میں ماتم و فغاں کا ایک شور برپا تھا۔ فارینا کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امیدوں کا سررشتہ تھی آج جزیرے کی آبادی ایک بے مثال ویکٹا پری جمال سینہ کے وجود سے خالی ہونے والی تھی۔

راجدھانی کی سلامتی کے لئے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کی زباں پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لئے تحمین و آفریں اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے۔

دستور کے مطابق ٹھیک ایک پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راج دربار کی پاکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پاکی کی کھڑکیوں پر ٹھل کے زرنکار پردے لٹک رہے تھے۔ پیچھے بھیٹ چڑھانے کی رسومات کا سامان لئے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینہ کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نو جوان نے حکیم کے زانناخانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹھری میں داخل ہو گیا تھا۔ وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دستور کے مطابق غروب کے بعد بھیٹ چڑھنے والی دوشیزہ کی کوٹھری میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جاسکتے تھے۔ اب وہ بالکل پرایا مال ہو جاتی تھی۔

پاکی کے ہمراہ راج دربار سے بھیٹ چڑھائی جانے والی دولہن کے لئے مخصوص جوڑے بھی آئے تھے۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نو جوان کی کوٹھری کے دروازے پر رکھا اور یہ آواز دیتا ہوا چلا گیا۔ ”جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ نو جوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر کے پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔

مہنت سے کہا۔ ”اب، کوٹھری سے باہر نکل آؤ۔ پاکی دروازے پر لگ گئی ہے۔
 نو جوان اپنے جسم کو چادر سے لپیٹے منہ چھپائے، کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتے لجاتے
 سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلا اور پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پاکی
 کے قریب پہنچا۔ مہنت نے آگے بڑھ کر پاکی کا پردہ اٹھایا اور نو جوان اس کے اندر داخل ہو
 گیا۔ جیسے ہی پاکی اٹھی حکیم کا پیانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردہ سی مہمان کے جذبہ اخلاص
 اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل
 پڑی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ ہاتھوں ہاتھ لیا۔
 فارینا گھر میں موجود نہیں تھی۔ سرشام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم
 کی بیوی بھی نو جوان کی فداکاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔

پاکی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک
 پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشاویوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جذبہ
 عقیدت میں ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشاویوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل
 تک پاکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ مندر تک لے جانے والے راستے کے سرے پر پہنچ کر پاکی
 زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ مہنت نے پاکی کا پردہ اٹھا کر
 آواز دی۔

”پاکی سے اتر آؤ۔ یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔“ سر سے پاؤں تک چادر
 لپیٹے منہ چھپائے نو جوان باہر نکلا اور مہنت کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی
 عمارت کے سامنے پہنچ کر مہنت نے دروازہ کھولا اور نو جوان کو اندر داخل کر کے باہر سے
 مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے الٹے
 پاؤں رخصت ہو گیا۔

دروازہ مقفل ہو جانے کے بعد نو جوان نے زمانہ لباس اتار کر باہر پھینک دیا۔ چاندنی
 رات میں کھلی کھڑکیوں سے سمندر کی خوفناک لہروں کا طوفان صاف دکھائی پڑتا تھا۔ رات
 کی تنہائی سناٹے کا عالم اور منٹ منٹ پر بلاخیز موجوں کے تصادم کی آواز دل کو ہلا دینے
 کے لئے کافی تھی۔ لیکن نو جوان پر حالات کی وحشت و ہیبت ناک کی مطلق کوئی اثر نہیں تھا۔
 حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا۔ کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد

شروع ہوتا ہے۔ ابھی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا نو جوان نے ہمت و خیال کی بھری ہوئی طاقتوں کو سینے اور اعتماد یقین کے معنوی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لئے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور قلب اور نشاط بندگی کے ساتھ وہ رات ڈھلنے تک نماز میں مصروف رہا اب دل کی راہ سے عرش الہی اور گنبد خضریٰ کا فاصلہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں سے کار ساز کی قدرتوں کا تماشا دیکھ رہا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا اسکے جلو میں رحمتوں کے قافلے اتر آئے تھے۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور توڑنے کے لئے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امنڈ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلف سیاہ کمر سے نیچے ڈھلک کر آئی اچانک سمندر کی فضا ایک بھیاںک ماحول میں تبدیل ہونے لگی نو جوان بھی ایمان و یقین کے بھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا کچھ ہی لمحے کے بعد دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کوئی بھاری بھرکم سایہ اسے حرکت کرتا ہوا نظر آیا جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا نو جوان کے یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکتے ایک نہایت مہیب اور بھیاںک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی۔ ماتھے پر سینک کی طرح دو ٹیکلی برچھیاں کھڑی تھیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک دہشت و خوف کا ایک ہیبت ناک سراپا بڑے سے بڑے جیوٹ کو بھی لرزہ بر اندام کر دینے کے لئے کافی تھا۔ لیکن نو جوان کے دل پر اس ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا۔

نگاہیں دو چار ہوتے ہی نو جوان نے با آواز بلند آیہ الکرسی شریف کی تلاوت شروع کی قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی سطوت جلال سے فضا بوجھل ہو گئی۔ اب نو جوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک صف شکن مجاہد کی طرح ہاتھوں میں قہر الہی کی تلوار لئے ہوئے وہ دیو کو ہلاک کر دینے پر تل گیا تھا۔ ایمانی جلال کے تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے عفریت کا کلیجہ شق کر دیا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک چنگاری اڑی اور سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں نے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام کر دیا تھا جو عفریت سا لہا سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا آج ایمان کی مخفی طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا۔

فضا صاف ہوئی تو جوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبہ سمندر میں تحلیل ہو رہا تھا۔ بے ساختہ نو جوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لئے جھک گئی اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا حجاز کی سرزمین پر کائنات کی راجدھانی میں اس نے سرشام ہی ایک پیغام بھیجا تھا اپنے آقا کی چارہ گری پر وہ فخر و ناز سے چل چل اٹھتا تھا کہ اس کی فریاد رایگاں نہیں ہوئی مدینے کے آسمان سے عین اس وقت رحمتوں کا قافلہ اتر ا جبکہ وہ سمندر کے سنان ویرانے میں تنہا تھا۔ اور ایک خوفناک دیو چنگھاڑتا ہوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سرور و کیف کی ایک رقت انگیز کیفیت میں صبح تک اس کی آنکھوں کا سیلاب نہیں پیشانی میں سجدے مچلتے رہے اور ایمان و یقین کے چراغوں کی لوتیز ہوتی رہی۔

ذہن کی خاموش سطح پر بار بار یہ تصور ابھرتا رہا کہ ٹکڑے ہوئے ایمان میں کائنات کی کیسی کیسی طاقتیں جذب ہو گئی ہیں۔ دل کا یقین اگر سلامت ہے اور روح کا رشتہ غیبی حقیقتوں سے مربوط ہے تو تنہا ایک مرد مومن ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ معنوی قوتوں پر ایمان لانے کے لئے اب اسے کسی دلیل کی حاجت نہیں تھی کھلی آنکھوں سے اس نے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے تھے اور گنبد خضریٰ میں فریادوں کے باریاب ہونے کی آواز اس نے ماتھے کے کانوں سے خود سنی تھی۔ اب وہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے حقیقتوں کا تماشا کی تھا۔ وہ انہیں تصورات کی لذتوں میں گم تھا کہ ملاحوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اب سحر ہو چکی تھی نماز فجر کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

شہر والوں کے لئے اس طرح کی چودھویں راتیں اجنبی نہیں تھیں۔ سینکڑوں بار گزر چکی تھیں شہر کی تاریخ میں نو جوان دوشیزاؤں کی لاشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ اب اس طرح کی راتوں میں سوائے گھر والوں کے کسی کے یہاں بھی کوئی خاص اضطراب نہیں محسوس کیا جاتا تھا۔ آج بھی ساری رات حکیم کے گھر پر ایک کہرام برپا رہا کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی سب سے زیادہ بے چین فارینا تھی اسے رہ رہ کر نو جوان کا خیال ستا رہا تھا رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ کیونکہ سمندری دیو کے آنے کا یہی وقت

تھا وہ بار بار سوچتی تھی کہ نو جوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو راجہ کے کارندے حکیم کے گھر پر آ موجود ہوئے کیونکہ دستور یہ تھا۔ کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالہ کرتا تھا تا کہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کریں سوائے حکیم اس کی بیوی اور فارینا کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کی بھٹیٹ چڑھانے کے لئے قرعہ اندازی میں فارینا کا نام نکلا تھا پاکی میں اسی کو مندر تک پہنچایا گیا اسی خیال کے مطابق فارینا کے باپ کو راجہ کے کارندے ایک جلوس کے ساتھ مندر کی طرف لے کر چلے۔ مندر کی حدود سے باہر ہزاروں تماشاخیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لئے ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔

مندر کے دروازے تک پہنچ کر پجاری رک گئے حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ معلوم نہیں نو جوان کا کیا انجام ہے۔ ہمت کر کے جونہی دروازہ کھولا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہکا بکارہ گیا کہ نو جوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت و حیرت سے چیخ پڑے بجلی کی طرح یہ خبر تماشاخیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا راجہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نو جوان مندر کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور رعب و دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ نو جوان نے باہر نکل کر راجہ کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں وہی نو جوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برہا برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے۔ اور اس کے قہر و ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے آپ کی حکومت ہر چار مہینے پر شہر کی ایک نو جوان دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے تو میں اس لرزہ خیز واقعہ سے بڑبڑا اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعہ میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پاسکتا ہوں۔ اس لئے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی کہ وہ فارینا کے بدلے مجھے دو لہن بنا کر پاکی میں سوار کرادے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم اس سنگین اقدام کے لئے تیار ہوا اور

گزشتہ شب فارینا کے بجائے مجھے اس مندر میں مقفل کر دیا گیا۔

یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ راجہ نے مضطربانہ انداز میں اس سے سوال کیا۔

گزشتہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں؟
نوجوان نے نہایت شان استغنا کے ساتھ جواب دیا۔

”وہی ماجرا پیش آیا جس کی توقع تھی رات ڈھل جانے کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق آیا اور مندر کی کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایمان و یقین کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا وہ جیسے ہی سامنے آیا میں نے اپنا عمل شروع کیا اور چند ہی منٹ میں اس کی قوتوں کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا جلال حق کی ایک چنگاری نے اس کے دھوئیں اڑا دیئے۔ راجہ نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا۔ اس کی ہیبت ناک شکل کا سامنا کرتے ہوئے کیا تم پر خوف نہیں طاری ہوا۔“

نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بندہ مومن کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اب سارا شہر اس نوجوان کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھا۔ فارینا بھی خوشی سے پھولے نہیں سارے ہی تھی نوجوان کی فتح و کامرانی سے اس کی زندگی میں امیدوں کی ایک نئی سحر طلوع ہو گئی تھی وہ نہایت بے چینی کے ساتھ اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جبکہ نوجوان کے اخلاص و ہمدردی کا شکریہ ادا کرے۔

راجہ نوجوان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے جیسے ہی مندر سے باہر نکلا۔ تماشاویوں کے ہجوم نے نوجوان کو فرط عقیدت سے سر پر اٹھالیا۔ راج محل تک ساری رہگذر پر مشتاقان دید و رویہ کھڑے تھے نوجوان جن جن راستوں سے گزر رہا تھا ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عظمت و برتری کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔

راجہ نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا۔ جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجہ نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔

معزز شہریو! آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے

خونناک دشمن پر فتح پائی ہے اور اس عظیم الشان فتح کا سہرا اس نوجوان کے سر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے جس دیو کو ہم اپنی موت و حیات کا مالک سمجھے ہوئے تھے آج نوجوان نے اسکے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی دشمن کا قلع قمع کیا ہے دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی دین کو قبول کر لیں۔

شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا۔

اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکر یہ ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن جہاں تک نوجوان کے دین قبول کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھینٹ چڑھانے کی اب جو تاریخ آرہی ہے۔ اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری بے چون و چرا تسلیم کر لیں گے۔

راجہ کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اسی ضمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دو شیزہ بھی مندر کے اندر مقفل کی جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔

نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے اس میں اتنی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ نوجوان دو شیزہ مندر کے اندر مقفل رہے گی اور میں باہر پہرہ دوں گا۔

لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یہ صورت تو اور بھی ہمارے لئے اطمینان بخش ہے۔

آج پھر وہی چودھویں رات تھی پھر بھینٹ چڑھانے کے لئے شہر کی ایک دو شیزہ منتخب کی گئی اور دستور کے مطابق ایک پہرہ رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ اسکی صبح کو کئی ہزار انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا آج بھی نوجوان کا سینہ گریہ و مناجات کے سوز و گداز

سے معمور ہو گیا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آدمی رات ڈھل جانے کے بعد پھر وہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی فریادیں پھر وہی آیات الہی کی حق افروز تلاوتیں شروع ہو گئیں آج نوجوان پر ایسی رقت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خداوندی اس کا منہ چوم رہی تھی رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی انگلیاں آنکھوں کا تلاطم دم بدم بڑھتا رہا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا لیکن دیو کی آمد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سپیدی نمودار ہوئی جیسے ہی ملاحوں کی آواز کان میں گونجی نوجوان عالم بخودی سے چونک اٹھا دیکھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ شکر کے لئے گر پڑا آج اس نے اپنے دین کا سراونچا کر دیا تھا۔

آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا جیسے ہی سورج کی ٹکیہ چمکی ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔

راجہ بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لئے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا نوجوان کو سلامت دیکھ کر راجہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ راجہ کچھ کہتا ہی چاہتا تھا کہ مصاحبین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان دو شیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ نہایت بے تابی کے عالم میں راجہ نے حکم دیا کہ پچھلے دستور کو بالائے طاق رکھ کر آج مندر کا دروازہ کوئی بھی کھولے۔

کئی ہزار تماشاخیوں کی آنکھیں ٹٹکی ہانڈھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں جونہی دروازہ کھلا شہر کی دو شیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی یہ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرط مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینے کے لئے پروانوں کا اضطراب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راجہ نے عقیدت و شوق کے امنڈتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی اور نوجوان کی پابوسی کے لئے مجمع سے چند لمحے کی مہلت طلب کی جب مجمع کچھ سکون پذیر ہوا تو راجہ نے لڑکی سے رات کی سرگزشت دریافت کی۔

لڑکی نے جواب دیارات کی عجیب و غریب سرگزشت سننا چاہتے ہیں تو اسکی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت بچے اور بوڑھے کسی میدان میں جمع کیجئے۔ راہ نے لڑکی کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اسکے بعد نو جوان اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے مندر سے روانہ ہوا۔

راجہ کے کارندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں ہزاروں ہزار افراد کا ٹھانٹھاں مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزرنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا چاہتی ہے آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا۔

میرے بزرگوار! میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکے ہیں۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نو جوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلائے ہوئے دیکھے اور نو جوان پر برس کر چلے گئے۔ یہ نو جوان اس دنیا کا آدمی نہیں معلوم ہوتا رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا لیکن نو جوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پر چھائیں بھی نظر نہیں آئی۔ بلاشبہ وہ کلام دل کی گہرائی میں اتار لینے کے قابل ہے یہ اعلان کرنے کیلئے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نو جوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے۔ جس کی برکتیں کی پہلی بارش سمندر کے ساحل پر ہوئی ہے لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راہ نے تجے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہو کر اعلان کیا۔

میں نو جوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری ساری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔

آج کلمہ توحید کی سر بلندی کا دن تھا اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھیں نو جوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر چکنے کے بعد اس نے راجہ کے ہاتھ سے اسی میدان میں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد

رکھوائی۔

وہ نظارہ چشم فلک کے لئے بڑا ہی کیف آور تھا جبکہ اسی میدان میں نماز کے لئے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کی اقتدار میں بیک وقت سارا شہر خدائے قدوس کے آگے سجدہ ریز تھا۔

شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینا نیچی نگاہ کئے سامنے آئی اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا نوجوان نے فارینا کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے اس کے لئے میں شکریہ کا طلب گار نہیں ہوں وہ میرے ایمان و اسلام کا ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کارفرما نہیں ہے۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا وہ دن اس شہر والوں کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا اور سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔



لمحہ آتشیں

کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گستر تھے کہ نقیب نے آکر اطلاع دی۔ جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کرو۔

چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچھتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو۔

جہاں پناہ میں ایک بہروپیا ہوں۔ صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔

اورنگ زیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوہ رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیا کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچانا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکا دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک تدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔

شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیا دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قبا اگاہ پر

پہنچ کر کئی دن سوچتا رہا کہ کونسا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکا دیا جاسکے۔

ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دہلی کی راجدھانی میں پہلچ مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نقلی روزوں کی منت مان لی گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔

علاج کے لئے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بندھ گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ رو بصحت ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے مشتاقان دید سے دربار کھپا کھپا بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی سارا دربار سروقد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک چوہدار نے آ کر خبر دی۔

”جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لئے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لئے متوجہ ہو گئے۔

تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کی دستار و عبا میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کے ستائش سے گونج اٹھا۔

شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنیوالے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لئے آگے بڑھا۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا۔

یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہرہ پیا پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق نہ آئے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے غڈ حال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔

آج رمضان المبارک کی انتیس تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دو راقی مغرب پر ہلال عید کے تمنائوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شورا اٹھا۔ عید کا چاند نظر آ گیا۔

قلعہ معلیٰ سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی ہارشوں میں نہا گیا ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا میں عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء و مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تہنیتیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔

آج ساری رات کے لئے قلعہ معلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا تھا مملکت کے سارے مساکین اٹھتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا، تنگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے اہل حواج کی حاجتیں پوری کر دی جائیں۔

راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئیں تھیں۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نورس کلیوں گلگتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے رنگ برنگ جلوؤں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفعتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جاں نواز تھا کہ قلعہ معلیٰ سے نماز عید کے لئے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہراؤں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امنڈنے لگیں۔

دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلیٰ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج امیر کشور ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اسکی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب مل گئے۔ کتنی آنکھیں خشیت الہی کے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں انہی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دو گانہ نماز ختم ہوئی۔

خطبہ و معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امنڈنا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔

قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور روسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نذر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لئے ہوئے نوابوں راجاؤں اور

جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلیٰ کی طرف بڑھ رہی تھیں صدر دروازہ سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دولہن بنا ہوا تھا۔

نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے تخت آبنوس پر جلوہ گستر ہوتے ہی سلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔

والیان ریاست اور روسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نذر پیش کی اخیر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا۔

اس میں بدخشاں کا وہ لعل شب چراغ ہے جو ایک ہزار سال تک مرغ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا۔ تب جا کر آج اسے پائے گا عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کوکب اقبال کی تابندگی سلامت رہے بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرد اور لاشریک ہے۔ جیسے جہاں پناہ کی سطوت شاہانہ!

شب ہائے تاریکی روشنی دیدہ عقل کا چراغ چمنستان آرزو کا لالہ بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔

فرمانروائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگ زیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اسکے دل میں ترازو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا۔ ہزار شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمائی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

کچھ ہی عرصہ بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقتضائے

وقت کے مطابق آتش بغاوت فرو کرنے اور باغیوں کو کفر کھدار تک پہنچانے کے لئے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرمالیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔

آج صبح سویرے حضرت اورنگ زیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لئے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگا ہوں پر سے شہنشاہ اورنگ زیب گزرتے تھے۔ سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔

صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لئے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔

حضرت اورنگ زیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیائے مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لئے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے۔ فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔

دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کے جھونپڑوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھوہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لئے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔

لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ سدا آنکھیں بند کئے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پر نور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

یہ حالات سن کر چورنگ زیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی اس لئے طے پایا کہ صبح کے اُجالے میں درویش کی زیارت کے لئے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔

صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھوہ تک ساری گزر گاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا۔ نئے کپڑے زیب تن فرمائے۔ دو رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پا چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک طینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دھانے پر پہنچ کر شہنشاہ رُک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلے۔ اندر کے حصہ میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا۔ اس لئے جگہ جگہ کافوری مشعل روشن کر دی گئی تھی۔ تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔

خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دوڑانو بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوض و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لئے دُعا کی درخواست کی لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغناء کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ اسی لئے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا۔ اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اُٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لئے جھکا! بہر و پیا نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لئے۔

بس ہو گیا جہاں پناہ! ”میرے فن کا یہ آخری اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں وہی بہر و پیا ہوں جسے دوبار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔“

یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا:

”آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے۔ اشرافیوں کی یہ تعمیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اُس وقت ادا کروں گا جبکہ قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا۔ بہروپیا نے دامن تمام لیا۔“ جہاں پناہ! اشرافیوں کی یہ تعمیلی لے کر اب میں کیا کروں گا۔ اب تو دل کی دُنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے۔ اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی تو اصل کی طرف اگر میں رُخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟“

یہ کہتے ہوئے ایک چٹ ماری اور جیب و گریباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی اس رقت انگیز واقعہ کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے۔

خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا اور کسی کے لئے ایک ہی لمحہ آتشیں زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رُخ کی طرف مبذول ہوئی۔

آہ! خدا شناسی اور فقیر درویشی کے نقالوں نے دُنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہو گا۔ کون جانتا ہے؟ اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں ہی نہیں تھا۔ میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوئے گئے۔

صد حیف! کہ اس راہ کے فریب سے بچنا کتنا مشکل ہے؟ تسبیح و مصلیٰ، تقدیس و ہلیل اور ریاضت و عبادت کے چمکدار سکون پر کون نہیں رتجھ جائے گا؟ پروردگار! تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔



سیرت النبی
صلی

کتاب السنن

بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ

از تصنیف لطیف:

امام المحدثین حضرت قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی رحمہ اللہ

ترجمہ:

مولانا علامہ حافظ احمد علی شاہ حنفی چشتی نظامی

ناشر:

شبیر برادرزہ ۴۰ اردو بازار۔ لاہور

